

علم کلام جدید پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے

نایاب رسالہ "انتباہاتِ مفیدہ" کی بہترین شرح

درس انتباہاتِ مفیدہ

مؤلف

مفہی سیدیح اللہ رضا شاہ

مدرس الجامعۃ البتویریۃ العالیۃ

مکتبۃ السعید

کراچی • بیٹ خیلہ • مردان



بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض مؤلف

علم الكلام تمام علوم کی بنیاد اور اصل ہے اس لیے کہ اس کا موضوع "اللہ کی ذات و صفات" اور ایمانیات ہے۔ اور ایمان تمام ارکان اسلام کے لیے اصل ہے، قرون اولیٰ میں اس علم کی اہمیت کا انداز اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سب سے پہلی تصنیف "الفقہ الاکبر" کے نام سے علم الكلام سے متعلق ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدم توجیہ یا کم توجیہ کے نتیجے میں یہ علم ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ زمانہ کی جدت کے ساتھ ساتھ دین اسلام خاص طور پر عتنا کم کوئی نئے اعتراضات کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے تو ہر زمانہ میں اس علم کی تجدید وقت کی اہم و اشد ضرورت ہے۔ دور جدید میں جہاں بہت ساری مادی خوبی ایجاد اور جنم لے رہی ہیں آئے دن نئے نئے فلسفے بھی بنتے جا رہے ہیں۔ دنیا کے تمام فلسفوں کا مقابلہ اور تردید اسلامی فلسفے سے ہی ممکن ہے۔ الحمد لله وقت کی ضرورت کا یہ تقاضا علماء حق نے نہیں چھوڑا اور ہمارے مشائخ دیوبند کے عالی مقام متاز عالم دین وقت کے حکیم الامم حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دور جدید کو نظر رکھ کر علم الكلام کی تجدید فرمائی اور جامع اصول و قواعد مرتب کر کے متجددین کے تمام اعتراضات کا ازالہ فرمایا۔ اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ان قواعد کے مجموعہ (بنام انتباہات مغیدہ) کو وفاق المدارس کے نصاب کا حصہ بھی بنایا گیا۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عالمانہ اور محققانہ زبان کو سمجھنا اور سمجھانا کوئی آسان بات نہیں۔ زیر نظر رسالہ بھی علمی و تحقیقی ہونے کی وجہ سے طلباء کو کافی مشکل لگتا ہے۔ اللہ

تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم سے بندہ کو کئی سالوں سے نامگور درسالہ پڑھانے کا موقعہ ملا، خود بھی سمجھنے اور طلباء کو سمجھانے کی کافی محنت کرتا رہا۔ اور ساتھ ساتھ طلباء کی سبولت کے لئے دوران درس تقریر کا حصہ تھا۔ جس کے نتیجے میں اس رسالے کی شرح وجود میں آئی۔ افادہ عام کی غرض سے یہ شرح مطبوعہ صورت میں پیش کی جا رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میرے لیے ذخیرہ آخرت، اور طلباء کرام کے ہفع بن
دے۔ آمين!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سبب تالیف

اس زمانہ میں مسلمانوں کے عقائد و افکار، عبادات اور عادات میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے لحاظ سے علم کلام کی تدوین ہوئی چاہئے، اگر ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا مدونہ علم کلام ہمارے لئے کافی نہیں تو ان کا یہ کہنا غلط ہے اس لئے کہ انہوں نے ایسے جامع اصول اور قواعد مرتب فرمائے ہیں جن سے ہر دور میں کام لیا جاسکتا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض ایسے جزئی شبهات نے جنم لیا ہے جو اسلاف کے زمانے میں نہیں تھے اس لحاظ سے علم کلام پر جدید طریقہ سے کام کی ضرورت ہے۔

اسلاف کے مدونہ علم کلام کو ناقص کہنا اس لئے غلط ہے کہ آجکل کی اکثر ایجادات پہلے تو تحقیقی نہیں ہوتے بلکہ اوہاں اور تجھیں ہوتے ہیں ورنہ اکثر پرانے فلاسفہ سے چوری کر کے نئے انداز میں پیش کئے جاتے ہیں بعض تو ایسے سائل ہیں جن پر بہت طویل زمانہ گزر گیا تو لوگوں کے علم میں نہیں رہیں اور آج کل کے فلاسفہ نے از سرنو ان ابحاث کو چھیڑ دیا، اور بعض سائل اگرچہ پرانے ہیں مگر نئے عنوان کا جامہ پہننا کر پیش کئے گئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے سائل ہیں حالانکہ سائل پرانے ہی ہوتے ہیں۔ ان سائل پر تو ہمارے مشائخ نے کتب علم کلام میں خوب کام فرمایا ہے۔ البتہ بعض ایسے سائل ہیں جو حقیقت میں نئے ہیں ان سائل پر بحث کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کو علم کلام جدید کا نام دیا جاسکتا ہے۔

معنف فرماتے ہیں کہ میں مسلسل اس فکر میں ڈوبا ہوا تھا بھی خیال آتا کہ تمام شبہات کا احاطہ کیا جائے مگر یہ کام بہت طویل تھا پھر میں نے اختصار کا سوچنے ہوتے کہا کہ ایک ایک شبہ جو مشبور بواس کو جمع کیا جائے اور ہر ہر شبہ کا جواب دیا جائے اس سے دوناں دوستے ہوں گے ایک تو لوگوں کے سامنے ہر ہر شبہ کی وضاحت سامنے آجائے گی۔ دوسرے ایسے اصول جمع ہو جائیں گے جو آئندہ پیدا ہونے والے شبہات کی تردید کے لئے بھی کافی ہوں گے۔

اس کام کے لئے میں نے بعض دوستوں سے بھی کہا کہ وہ شبہات کو جمع کرنے میں تعاون کریں چنانچہ شبہات کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا اور اس طرح اس کام کی ابتداء کر دی گئی۔

پھر ۱۳۲۷ھ میں میں اپنے بھائی کے پاس جامعہ علی گڑھ ملاقات کے لئے گیا وہاں کے نواب صاحب نے مجھے وعظ کرنے کا کہا میں نے ان کی طلب کو دیکھتے ہوئے بیان کیا وہاں میرے دل میں آیا کہ تمام شبہات کے جمع ہونے کا انعامارنہ کیا جائے اس لئے کہ یہ کام تو میرے دوستوں کے پرداختا۔ بلکہ جو شبہات میرے مطالعہ میں آپکے ہیں یا میں نے اساتذہ سے سے ہیں اور جو میں نے اپنے مواعظ میں بیان کے ہیں انکو انکھا کر کے ایک رسالہ تیار کیا جائے۔

علی گڑھ میں جو میں نے بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے آج کل ہمیں خامہ کی باتوں سے فائدہ نہیں ہوتا اس لئے کہ ہم چند طرح کی غلطیوں کے شکار ہیں۔

ایک یہ کہ دین کے حوالے سے ہمارے دلوں میں جو شبہات اور وساوس جنم لے رہے ہیں ہم انہیں یہاری نہیں سمجھتے اسی وجہ سے روحانی طبیبوں کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں سمجھتے ورنہ جو شخص اپنے آپ کو یہاں سمجھتا ہے وہ ڈاکٹر کے آنے کا انعامار نہیں کرتا بلکہ خود ڈاکٹروں کے پاس جانے کی سعی کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے علاج سے فائدہ نہ ہو تو

دوسرے کے پاس جاتا ہے، اسی طرح روحاںی امراض کے لئے بھی علماء کے پاس جانا چاہئے اگر ایک عالم کے جواب سے تشویش نہ ہو تو دوسرے کے پاس جانا چاہئے۔

دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ پر اعتقاد کرتے ہیں اس لئے کسی معاملے میں خود کو غلط نہیں مانتے اور علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

تیسرا غلطی یہ ہے کہ بعض لوگوں کی یہ بری عادت بن چکی ہے کہ جن مسائل کا علم ان کو نہیں ہے دوسروں سے پوچھتے ہوئے ان کی بات پر اعتقاد نہیں کرتے اور ان سے حکمتیں اور دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ کم علم انسان کے لئے کسی عالم کی تقليد فروری ہے کہ عالم کی تحقیق کو بلا مطالبہ دلیل کے مان کر عمل کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کے پاس دلائل نہیں ہیں بلکہ بہت سارے دلائل ہیں مگر ہر شخص میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ لہذا آپ حضرات علماء کی طرف مراجعت کیا کریں اور جب تک مسئلہ کی وضاحت نہ ہو مسلسل پوچھتے رہیں اگر ایک عالم کی بات سمجھے میں نہ آئے تو اس سے زیادہ ماہر اور شفیق عالم کے پاس جائیں اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی اصلاح بوجائے گی۔

حکمت کی تقسیم:

حکمت یعنی فلسفہ تمام علوم کی بنیاد ہے۔ اس کی تعریف یوں ہے: ”واقعات کے مطابق حقائق کا ایسا علم ہو جانا کہ نفس کو پورا اعتقاد حاصل ہواں کا نام حکمت اور فلسفہ ہے۔“

پھر تقسیم اول کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں:

(1) حکمت علیہ: جو افعال انسانی اختیار اور قدرت میں ہیں ان کے علم کا نام حکمت علیہ ہے۔

(2) حکمت نظریہ: جو افعال انسانی اختیار میں نہیں ان کے علم کا نام حکمت نظریہ ہے۔

پھر حکمت علیہ کی تین قسمیں ہیں: (1) تہذیب اخلاق: افراد کی ضروریات کے علم کا نام

تبذیب اخلاق ہے۔ (2) تدبیر منزل: ایک ایسی جماعت جو رہن سکن میں ایک ساتھ ہوں ان کی ضروریات کے علم کا نام تدبیر منزل ہے۔ (3) سیاست مدنی: ملک و قوم کے لحاظ سے شریک جماعت کی ضروریات کے علم کا نام سیاست مدنی ہے۔

حکمت نظریہ کی بھی تین قسمیں ہیں: (1) علم الہی: ان احوال کا علم جو خارج کے لحاظ سے اور ذہن کے لحاظ سے وجود میں مادہ کی طرف محتاج نہ ہوں ایسے احوال کے نام کو علم الہی کہا جاتا ہے۔ (2) علم ریاضی: جو احوال صرف وجود خارجی میں مادہ کی طرف محتاج ہوں ان کو جانے کا نام علم ریاضی ہے۔ (3) علم طبیعی: "سائنس": جو احوال وجود ذہنی اور خارجی میں مادہ کی طرف محتاج ہوں ان کو جانے کا نام علم طبیعی ہے۔

گویا علم حکمت کی چھ قسمیں ہیں (1) تبذیب الاخلاق (2) تدبیر منزل (3) سیاست مدنی (4) علم الہی (5) علم ریاضی (6) علم طبیعی۔

علم الہی میں وحی، نبوت آخرت کے احوال وغیرہ بھی داخل ہیں اس لئے اس کو علم عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ تبذیب الاخلاق، تدبیر منزل، اور سیاست مدنی ان تین قسموں کو جانے کا نام حکمت علیہ ہے، اس میں عبادات، معاملات، معاشرت، اور اخلاق بھی شامل ہیں یہ سب شریعت میں مقصود ہیں اس لئے کہ علم الہی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بحث کی جاتی ہے۔ اگر بظاہران میں کوئی مصلحت نظر نہ بھی آئے تو اس کی دو وجہیں ہوں گی یا تو شخصی مصلحت پر عمومی مصلحت کو مقدم رکھا جاتا ہے اسی وجہ سے شخصی نقصان نظر آتا ہے مگر درحقیقت اس میں عمومی فائدہ ہوتا ہے۔ یا مادی مصلحت کو نظر انداز کر کے روحانی ضرر کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے اس لئے مادی نقصان اگرچہ نظر آتا ہے مگر اس میں روحانی نقصان سے بچاؤ کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ بہر حال ایک مسلمان مصلحتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے ان چاروں سے بحث کی ہے اس لئے کہ ان

کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہے۔ اور علم ریاضی اور علم طبیعی کا تعلق ان دو میں سے کسی سے نہیں ہے اس لئے شریعت ان بحث نہیں کرتی۔

معنف فرماتے ہیں کہ میں ہر قسم سے الگ الگ بحث نہیں کروں گا بلکہ صرف ان امور سے بحث کروں گا جن کے متعلق ابل زمانہ کوشہبات لاحق ہوئے ہیں۔ ترتیب یہ ہو گی کہ پہلے ایک قسم کے متعلق شہہات ذکر کر کے ان کا ازالہ کریں گے پھر دوسرا قسم کا ذکر، اسی طرح ترتیب چلتی رہے گی۔

پہلا قاعدہ:

عدم فهم الشی لیس بدلیل علی بطلانہ

کسی چیز کا سمجھہ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

جب کسی چیز کی نظری پرواٹ دلیل سامنے آئے تب اس چیز کو باطل کہا جائے گا۔ اس قاعدہ کو سمجھنے کے لئے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔

(1) عدم فهم الشی کسی چیز کے وجود کا سمجھہ میں نہ آنا۔ مثلاً کسی شخص نے کوئی چیز کبھی دیکھی، ہی نہ ہوا اور نہ اس کے اسباب سے واقف ہو جب ایسی چیز کے بارے میں سنا ہے تو تعجب سے کہنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟

حسی مثال:

جیسے وہ دیہاتی جس نے کبھی ریل گاڑی نہیں دیکھی اور اس کے سامنے ریل کا تذکرہ کیا جائے کہ ایسی گاڑی بھی ہے جو گدھے اور گھوڑے کے بغیر چلتی ہے تو دیہاتی تعجب سے کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی بغیر گدھے یا گھوڑے کے چلتی ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ تو اس دیہاتی کا سمجھہ میں نہ آتا ریل گاڑی کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے کہ ریل دنیا میں ہے ہی نہیں۔

شرعی مثال:

جیسے قیامت کے دن لوگ پل صراط سے گزریں گے جو بال سے زیادہ باریک ہے، انسان کے پاس اس کے باطل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکتا ہے کہ اتنے باریک راستے پر پاؤں رکھنا کیسے ممکن ہے؟ رتی پر چلتے ہوئی آدمی کو دیکھا ہے مگر بال پر چلنا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ مگر انسان کو سمجھ میں نہ آنے سے پل صراط کا باطل ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں زمین پر چلنے کی قدرت دے رکھی ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس قانون کے برخلاف بال پر چلانا ممکن نہادے۔

(2) کسی چیز کے نہ ہونے کا علم: یعنی دلیل نقلي یا دلیل عقلی سے کسی چیز کی نہیں ہو جانا۔

حسی مثال:

مثلاً کوئی آدمی بذات خود لا ہور سے کراچی ریل میں آیا اور دوسرا شخص نے اس سے کہا کہ یہ ٹرین لا ہور سے کراچی ایک گھنٹے میں پہنچی ہے تو وہ مسافر کہتا ہے کہ تیری بات سو فیصد غلط اور باطل ہے کیوں کہ میں خود بھی اور دوسرا مسافر بھی اس ٹرین میں آئے ہیں، ہم نے تو میں گھنٹے کا سفر کیا ہے تمہاری بات ہمارے مشاہدہ کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں مسافر کو متكلم کی بات کے بطلان کا علم دلیل اور مشاہدہ سے ہوا اس کو کہتے ہیں العلم بعدم الشی۔

شرعی مثال:

جیسے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اولیاء کرام کی اولاد اگر چہ مشرک کیوں نہ ہوں ولی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو معاف کر دیں گے۔ اگر کوئی اس دعویٰ کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار درست ہے کیوں کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کے نقلي دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ

شُرک کا گناہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے {ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون لمن يشاء }

دوسرا قاعدہ:

اذا كان الأمر ممكناً عقلاً و قام دليل نقلٍ صحيحٍ على وقوعه وجوب القول
بوقوعه كما انه اذا قام على عدم وقوعه وجوب القول بعدم وقوعه

جب کوئی امر یعنی چیز عقل کے نزدیک ممکن ہو اور اس کے وقوع اور ثبوت پر دلیل نقلی قائم ہو جائے تو اس کا ماننا واجب ہے۔ اور اس کی نقی پر دلیل نقلی پائی گئی تو اس کا انکار واجب ہے۔

تمام امور کے تین احوال ہیں: (1) واجب: ایسا امر کہ عقل اس کے وجود کو ضروری سمجھے اور اس کا عدم تسلیم نہ کرے۔ بلکہ اس کا ہونا عقل کے نزدیک واجب ہو۔
جیسے: ایک نصف ہے دو کا۔ عقل کے نزدیک اس کا ماننا واجب ہے اور اس کا انکار ممتنع ہے۔

(2) ممتنع: ایسا امر کہ عقل اس کے انکار کو واجب سمجھے۔ جیسے ایک برابر ہے دو کا۔ عقل اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتی۔ ممتنع کا دوسرا نام حال بھی ہے۔

(3) ممکن: ایسا امر کہ عقل نہ اس کے وجوب کو ضروری قرار دیتی ہو اور نہ اس کے ممتنع ہونے کو، بلکہ اس کے وجود اور عدم دونوں کا احتمال ہو۔ یعنی امر ممکن کے بارے میں عقل کسی ایک جانب فیصلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے لئے دلیل نقلی کا ہونا ضروری ہے۔ دلیل نقلی جس جانب پر دلالت کرے اس کو ماننا واجب ہوتا ہے۔

حصی مثال:

جیسے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ پشاور شہر والپندی سے بڑا ہے، اب اس بارے

میں عقل ناپنے کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون سا شبر بڑا ہے اور کون سا تپوڑا بڑا۔ جو ایک شبر کے بڑا ہونے کا احتمال ہے۔

شرعی مثال:

جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آسمانوں کا مستغل وجود ہے، جبکہ فیٹا غورس فلسفی کا عقیدہ ہے کہ آسمانوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ جو میں نیلی چھتری نظر آ رہی ہے یہ فنا ہے۔ اب آسمان کا وجود امر ممکن ہے یہ احتمال بھی ہے کہ آسمان کو وجود ہوا اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس کا وجود نہ ہو۔ اس لئے کہ دور ہونے کی وجہ اس کا وجود نظر وہ میں نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے انسانی عقل اس کے وجود اور عدم وجود کا فیصلہ نہیں کر سکتی بلکہ اس کا فیصلہ دلیل نقلي سے کیا جائے گا اور قرآن و حدیث کی صورت میں کشیدہ دلائل نقليہ آسمانوں کے وجود کے متعلق موجود ہیں لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ آسمانوں کا مستغل وجود ہے۔

جبکہ فیٹا غورس مخصوص تجھیں سے کہتا ہے کہ نیلی چھتری فضا اور ہماری نظر وہ کی انتباہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ چاند، ستارے وغیرہ خلاء میں مقناطیسی قوت کی بنابر گردش کرتے ہیں لہذا آسمان کے وجود کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔

ابل اسلام اس کا جواب دیتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف احتیاج نہ ہونا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لئے کہ بہت سارے امور ایسے بھی ہیں جن میں حکومتی کارندوں کی ضرورت نہیں پڑتی تو کیا حکومتی کارندوں کے وجود کا انکار کرنا درست ہو گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ اور دلائل اس کے وجود پر دال ہیں، ایسے ہی آسمانوں کا معاملہ بھی ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں آسمان کی محتاج نہیں ہیں مگر آسمان کے وجود پر بہت سارے دلائل ہیں جو اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔

تیرا قاعدہ:

الاستحالة العقلية امر، والاستبعاد امر آخر، فان المستحيل يخالف العقل، المستبعد يخالف العادة لـ العقل، واحكام العقل والعادة متمايزة والترجح بينهما خطأ، لأن المحال لا يمكن وقوعه ابداً، والمستبعد يمكن وقوعه، والمحال نسميه خلاف العقل، المستبعد غير مدرك بالعقل، وظاهر انه لا وحدة بينهما۔

محال اور مستبعن وہ ہوتا ہے جو عقل کے نزدیک باطل ہو۔ اور مستبعد وہ ہوتا ہے جس کا وجود عقل کے نزدیک ممکن ہوتا ہے مگر کبھی کبھی یعنی کم دیکھنے کی وجہ سے انسان اس کے وجود کو تعجب خیز خیال کرتا ہے۔ جیسا کہ دیباتی والی مثال ذکر کر دی گئی کہ ریل کونہ دیکھنے کی وجہ سے وہ اس کے وجود کے متعلق حیران ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ حیران کن بات مان کے پیٹ میں نظر سے ایک مکمل انسان کا بن جانا ہے۔ لیکن دیباتی اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اس لئے اس سے حیران نہیں ہوتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ محال الگ چیز ہے اس کا نہ ماننا ضروری ہوتا ہے جیسے واحد کا اشنان کے ساوی ہونے کا انکار واجب ہے۔ اور مستبعد الگ چیز ہے صرف انسانی مشاہدہ نہ ہونے اور کبھی سے بعد ہونے کی بنیاد پر اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، البتہ اگر کوئی دلیل خارجی اس کے عدم پر پائی گئی تو اس کا انکار کیا جائے گا۔ اس لئے کہ بہت ساری نئی ایجادات پر اనے زمانے میں فہم انسانی سے بالاتر تحسیں مگر آج کے زمانے میں ان کا عام وجود ہے، جیسے ریڈ یو وغیرہ سے آواز کا نکلاو غیرہ وغیرہ۔ مگر جب انسان یہ سنتا ہے کہ قیامت کے دن انسانی اعتشاء ہاتھ وغیرہ انسان کی گواہی دیتے وقت بول پڑیں گے تو حیرت زد ورو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کا مشاہدہ کبھی نہیں کیا گیا۔ مگر عدم مشاہدہ کی بنا پر اس کو محال کہ جانا غلط ہے۔ محال

الگ چیز ہے اور مستعد الگ چیز ہے اور دونوں کے احکام تجھی جدا جداتیں۔ ان دونوں کو ایک سمجھنا قطعاً غلط ہے۔

فائدہ:

مستعد کے متعلق خبر دینے والے کو دیکھا جائے گا اگر وہ سچا ہے تو اس کا وجود تسلیم کرنا پڑے گا اگر مخبر جھوٹا ہے تو اس امر کا انکار کر دیا جائے گا۔

چوتھا قاعدہ:

ان وجود الشی لا یستلزم ان یکون مدر کتاباحدی الحواس او المشاهدة فان المشاهدة لیست هی الوسیلة الوحيدة للعلم بوجود الشی من الاشياء کسی چیز کے وجود کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ حواس خرہ یا مشاہدہ سے معلوم بھی ہوتا ہواں لئے کہ صرف مشاہدہ چیزوں کے جانے کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔

کسی بھی چیز کے وجود کا علم تین طریقوں میں سے کسی ایک سے طریقہ سے ممکن ہے:
(1) مشاہدو: جیسے ہم دیکھ لیں کہ زید آرہا ہے تو اس کے آنے کا فیصلہ کردیتے ہیں کہ وہ آگیا ہے، اس لئے کہ مشاہدو سے اس کے آنے کا علم ہو گیا۔

(2) پچے خبر دینے والے کی خبر: جیسے کوئی چاہی آدمی ہمیں خبر دے دے کہ زید آگیا ہے تو بھی ہمیں اس کے آنے کا علم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خبر کو جھوٹا قرار دینے کی کوئی صحیح دلیل بھی نہ ہو۔ اگر کوئی قوی دلیل سے اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً آپ ہی کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رات کو زید تمہارے گھر آیا تھا اور اس نے آپ کو مار کر زخمی کیا تھا حالانکہ آپ کو یقین ہے کہ مجھے کسی نے مارا نہیں ہے۔ یہاں مشاہدہ اس خبر کی تکذیب کر رہا ہے لہذا اس خبر کا اختبار

نہیں کیا جائے گا۔

(3) عقلی استدلال: جیسے دھوپ اور کرن دیکھ کر عقتل فینڈ کر لئی ہے کہ سورج طاوع ہو چکا ہے اگرچہ سورج کو دیکھا نہیں۔

مذکورہ بالانفصال سے معلوم ہوا کہ حواس خر اور مشاہدہ بھی کسی چیز کے وجود کے علم کا ذریعہ ہے مگر اکیا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دو مزید ذرائع بھی ہیں۔ اگر کسی چیز کا ادراک اور علم مشاہدہ سے نہ ہو تو صرف اس بنیاد پر اس سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس کے متعلق عقلی استدلال اور خبر کو بھی دیکھا جائے گا۔

مثال:

جیسے آسمان کے وجود کا مسئلہ ہے، اگرچہ فضائیکی میں حائل ہونے کی وجہ سے بھیں آسمان نظر نہیں آتا مگر نہ دیکھنے کی بنیاد پر اس کے وجود سے انکار کرنا غلط ہے۔ اس لئے کہ اس کے وجود کے متعلق دوسرے ذرائع موجود ہیں کہ تخبر صادق (اللہ اور اس کے رسول ﷺ) نے خبر دی ہے کہ آسمان موجود ہے۔ لہذا خبر کی بنا پر وجود سماء کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔

یا نچوال قاعدہ:

لَا يَمْكُنُ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ الْعُقْلِيِّ الْخَالِصِ عَلَى ثَبُوتِ الْمُنْقُولَاتِ

الخالصة فالمطالبة بمثل هذا الدليل لا يجوز

جن چیزوں کا تعلق صرف نقل سے ہوان کے ثبوت پر عقلی دلیل قائم کرنا ممکن نہیں لہذا ایسی چیزوں کے متعلق دلیل عقلی کا مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

جبیسا پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بعض واقعات کا تعلق خبر اور نقل کے ساتھ ہوتا ہے لہذا ان

کے بارے میں خبر اور نقل کا اعتبار کیا جائے گا ان کے ثبوت میں عقلی استدال ہے کہ کچھ دل بوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ۔ ہاں جن کا تعلق عقل سے وہاں عقل کا اعتبار ہو گا۔

مثال:

جیسے کوئی کہہ کر پرانے زمانے میں اسکندر اور داراد و بادشاہوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ اب اگر سامع اس کے ثبوت میں یہ مطالبہ کرے کہ ان کی لڑائی کیسے ہوئی؟ دلیل عقلی سے ثابت کرو، تو اس کا یہ مطالبہ غلط ہو گا۔ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی عقل سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ جواب میں یوں کہا جائے گا کہ دو بادشاہوں میں لڑائی برپا ہونا ممکن ہے، اور امر ممکن کے متعلق عقل فیصلہ نہیں کرتی اس لئے کہ عقل کے نزدیک اس کا ہوتا اور نہ ہوتا دنوں برابر ہوتا ہے۔ امر ممکن کے متعلق خبر کو دیکھا جاتا ہے اگر خبر دینے والا سچا ہے تو اس کی خبر کو قبول کرنا واجب ہوتا ہے، اور ان بادشاہوں کی لڑائی کے متعلق معتبر تاریخ دنوں نے خبر دی ہے لہذا اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔

شرعی مثال:

اسی طرح قیامت کے آنے، مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے، موت کے بعد دوسرا زندگی وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق نقل سے ہے، ان کے ثبوت پر عقلی دلیل کا مطالبہ کرنا قطعاً غلط ہے۔ اگرچہ یہ امور ہماری عقل اور فہم سے بالاتر ہیں لیکن عدم فہم شیء کسی چیز کے بظاہر کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ امور ممکنات میں سے ہیں اور تخبر صادق نے ان کے واقع ہونے کی خبر دی ہے لہذا خبر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔

چھٹا قاعدہ:

هناک فرق بین الدلیل والنظر، و انما یجوز مطالبہ المدعی بالدلیل
لابالنظر

دلیل اور نظریہ میں فرق ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مدعاً سے دلیل کا مطالبہ کرنا درست ہے مگر نظریہ پیش کرنے کا مطالبہ غلط ہے۔

اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیتا چاہئے جیسے کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ براٹانوی بادشاہ جورج خامس نے دہلی میں اپنا شاہی تخت بچا کر اس پر بیٹھ گیا اور بہت بڑا جلسہ منعقد کرایا۔ اس کے برخلاف دوسرا شخص کہتا ہے کہ تمہاری یہ خبر درست نہیں ہے اس کی کوئی سابقہ نظریہ کھادو کہ اس سے پہلے بھی کسی بادشاہ نے ایسا کیا ہو۔ تو اس منکر کا مطالبہ درست نہیں ہے اس لئے کہ دعویٰ کے ثبوت کے لئے نظریہ کا لاتا خرودی نہیں ہے بلکہ دلیل پیش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ لہذا اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ جو لوگ اس جلسہ میں شریک ہوئے ہیں وہ اس کی گواہی دیتے ہیں یا یوں کہا جائے گا یہ خبر اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے۔ لہذا اس خبر کو ماننے کے لئے نظریہ کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ دلیل موجود ہے۔

شرعی مثال:

ابل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کلام کریں گے اور انسان کے متعلق گواہی دیں گے۔ تو منکرین قیامت کا اس کے ثبوت پر نظریہ کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔ ہاں اس پر دلیل کا مطالبہ اگر کریں تو درست ہیں اور ہمارے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ جس کا تعلق نقل سے ہے یعنی اس کا فیصلہ دلیل نقلی سے کیا جانا چاہئے جبکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے کبھی خبر دی ہے کہ بروز قیامت اس طرح ہو گا لہذا اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔

یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل نئی ایجادات کی رو سے اس کی نظریہ بھی پیش کی جاسکتی ہے ریڈ یا اورٹی وی بے جان چیزیں ہیں مگر ان سے مختلف طرح کی آدازیں نکلتی رہتی ہیں جب ہم ان سے انکار نہیں کرتے تو ہاتھ پاؤں کے کلام کرنے سے

کیونکر انکار ممکن ہے۔

دور جدید کے مستشرقین کی بھی سب سے بڑی غلطی ہے وہ منقولات کے متعلق بھی نظریہ کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں جانتا چاہئے کہ ان کا یہ مطالبہ الزام مالایزم کی قبل سے ہے یعنی مدعی کے ذمے نظر دکھانا لازم نہیں ہوتا مگر پھر بھی اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، جو کہ اصولی طور پر غلط ہے۔

ساتواں قاعدہ:

اذ اتعارض الدليلان العقلی والنفلي فهناك اربعۃ احتمالات عقلاء

دلیل عقلی اور دلیل نفلی کے درمیان تعارض کے چار احتمالات ہیں:

(1) دونوں قطعی ہوں، یہ صورت ممکن نہیں ہے کیون جب دونوں قطعی یعنی صادق ہیں تو تعارض کیے متحقق ہو سکتا ہے اس لئے کہ تعارض کی صورت میں ایک صادق ہوتا ہے تو دوسرا کا ذبب ہوتا ہے۔

(2) دونوں ظنی ہوں۔ اس صورت میں دونوں یا کسی ایک کے معنی میں تاویل کر کے تطبیق کی جائے گی، اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو دلیل نفلی کو ترجیح دی جائے گی اس لئے کہ لفت کا قاعدہ ہے کہ لفظ کو اپنے ظاہر معنی ہی پر رکھنا اصل ہے لہذا نقل کو اپنے معنی پر رکھا جائے گا اور عقل کو ناقابل جحت قرار دیا جائے گا۔

(3) دلیل نفلی قطعی ہو اور عقلی ظنی ہو تو اسی صورت میں یقیناً نفلی دلیل مقدم ہو گی۔

(4) دلیل عقلی قطعی ہو اور نفلی ظنی ہو چاہے ثبوت میں ظن ہو یا دلالت علی المعنی میں، اس صورت میں دلیل عقلی کو ترجیح دی جائے گی، اور نفلی میں تاویل کر کے عقلی کا تابع قرار دیا جائے گا۔

تمہید

دلیل عقای کی تعریف:

عقل کا کسی چیز کے وجود یا عدم کا حکم لگانا۔ مثلاً: ملزم کے وجود سے لازم کے وجود پر یا دال کے وجود سے مدلول کے وجود پر حکم لگانا، اسی طرح تجربہ وغیرہ سے کسی چیز پر حکم لگانا وغیرہ وغیرہ۔

دلیل نقائی کی تعریف:

جس کے متعلق مخبر صادق خبر دے۔

تعارض کی تعریف:

دو چیزوں میں اس طور پر اختلاف ہو جانا کہ ایک کا صدق دوسرے کے کذب کا تقاضا کرے۔

مثال:

ایک شخص کہتا ہے کہ زید آج دس بجے بذریعہ ریل دبلي چلا گیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ زید تو آج گیارہ بجے میرے گھر میں میرے پاس تھا۔ ان دونوں کے دعوؤں میں ایسا اختلاف ہے کہ ایک سچا ہے تو دوسرے کو جھوٹا قرار دینا پڑے گا۔ ان دونوں میں جو شقہ ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر دونوں شقہ یعنی سچے ہیں تو خارجی قرآن سے جس کی تائید ہو گی اس کی بات قبول کی جائے گی اور دوسرے کی بات میں تاویل کی جائے گا مثلاً دیگر ذرائع سے معلوم ہوا کہ آج زید دبلي نہیں گیا ہے، تو جو شخص اس کے نہ جانے کا دعوئی کر رہا ہے اس کی بات کو قبول کیا جائے گا اور دوسرے کے دعوئی میں تاویل کی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شہر ہوا بوكہ زید دبلي گیا ہے یا زید گاڑی میں سوار ہوا تھا اس نے دیکھا اور زید پھر گاڑی سے اتر گیا۔

قاعدہ کی تشریح:

مذکورہ بالا تمثیل کے تناظر میں قاعدہ کی وضاحت اس طرح ہوگی۔ دلیل عقلی اور نکلی میں تعارض کی منکھے چار صورتیں ہیں:

(1) دونوں قطعی ہوں۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس لئے قطعی ہونے کی وجہ سے دونوں صادق ہیں اور دونوں صادقین میں تعارض متحقق نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ تعارض ایک صادق اور دوسرے کاذب کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

(2) دونوں ظنی ہوں تو دلیل نقلي کو ترجیح دی جائے گی اس لئے کہ دلیل نقلي اگرچہ ظنی ہی کیوں نہ ہو معتبر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ ظنی ہونے کے باوجود دو قابل قبول ہوئے جبکہ دلیل عقلی اگر ظنی ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ اس کے صدق کا بھی ظن ہے مگر غلط ہونے کا بھی امکان ہے لہذا اس کو غلط قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مثال:

سورج دو طرح سے حرکت کرتا ہے (1) سورج کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا۔ جیسے روزانہ سورج کا مشرق سے مغرب کی طرف جانا یا اپنے کہکشاں سمیت شمال کی طرف سورج کا مسلسل چلنا۔ اس کو ”حرکت اینیہ اور حرکت نقلہ“ کہا جاتا ہے (2) سورج چونکہ آگ کا ایک گولہ ہے اور آگ کے شعلے اس کے اجزاء بیس جو بھڑک رہے ہوتے ہیں ان شعلوں کی بھڑک اور حرکت کو ”حرکت وضعیہ“ کہا جاتا ہے۔

فلسفہ کاظریہ ہے کہ سورج کے لئے صرف حرکت وضعیہ ثابت ہے، حرکت اینیہ ثابت نہیں ہے اور جو روزانہ سورج ہمیں مشرق سے مغرب کی طرف چلتا ہو اُن پر آرہا ہے یہ دراصل زمین کی حرکت ہے کہ زمین اس کے گرد گھومتی ہے اسی وجہ سے ہمیں صبح سورج مشرق میں دکھائی دیتا ہے اور پھر جنوب سے ہوتے ہوئے مغرب میں چھپ جاتا ہے یہ

زمیں کی حرکت ہے، سورج اپنی جگہ تھبرا بوا ہے۔ فلاسفہ کا یہ دعویٰ ان کی عقل اور تجھیں پر بنی ہے۔

جبکہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ سورج کے لئے حرکت اینی ہی تاثیت ہے جس پر دلیل نقلي تطعی موجود ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے {و هو الذی خلق اللیل والنیار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون} ”اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں“

چنانچہ یہاں فلاسفہ کے پاس دلیل عقلی ہے اور اہل اسلام کے پاس دلیل نقلي ہے۔ لیکن چونکہ ”یسبحون“ کی نسبت سورج اور چاند کی طرف کی گئی ہے اور یہ نسبت مجازی ہے اس لئے کہ تیرنا دراصل پانی میں ہوتا ہے لہذا حرکت میں پر اس کی دلالت ظنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دلیل نقلي کو ترجیح دی جائے گی اور دلیل عقلی کو محظوظ رہ دیا جائے گا۔

فائدہ:

یہ بھی جانتا چاہئے کہ دور جدید کی تحقیق سے ثابت ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا۔ مگر سورج اپنے اردو گرد کے تمام سیاروں سمیت شمال کی جانب مسلسل روایاں دوال ہے۔ اس تحقیق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند تیرتے رہتے ہیں جس سے اہل اسلام کی تائید ہوتی ہے۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ دلیل نقلي میں تاویل کر کے تطبیق بھی تو ممکن ہے اس صورت میں عقلی اور نقلي دونوں درست ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نص یعنی دلیل نقلي میں تاویل تب کی جاتی ہے جہاں ضرورت ہو جبکہ یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نص میں تاویل کر کے اس کو ظاہری معنی

سے پھیر دیں۔ کیونکہ یہاں اس کے مقابلے میں دلیل عقلی خود ظنی ہے اس کے ناط بونے کا امکان موجود ہے اس کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس کی وجہ سے نفس میں تاویل کی کیا ضرورت ہے جبکہ بلا ضرورت شریعت تاویل کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے۔

(3) دلیل نقلي قطعی ہوا اور دلیل عقلی ظنی ہواں صورت میں لامحالہ دلیل نقلي راجح ہوگی۔

(4) دلیل نقلي ظنی ہوا اور دلیل عقلی قطعی ہو، اس صورت میں دلیل عقلی تو معبر ہوگی مگر دلیل نقلي کو بھی نہیں چھوڑ جائے گا اس لئے کہ دلیل نقلي کو قبول کرنا واجب ہے لہذا اس میں تاویل کر کے ظاہری معنی کے علاوہ ایسے معنی پر محول کیا جائے گا کہ دلیل عقلی کے ساتھ تطبیق ہو جائے۔ صرف یہ ایک صورت ہے جس میں عقل کو قتل پر ترجیح حاصل ہے۔ ہر جگہ عقل کا اعتبار کرنا اور قتل کو چھوڑنا قطعاً ناط ہے۔

مثال:

نقلي دلیل قرآن کریم کی آیت ہے {وَوْجَدَهَا تَغْرِبُ فِي عَيْنِ حَمْنَةِ} "ذوالقرین" سورج کو دیکھا کہ وہ کچھر کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ ظاہراً اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج زمین کے چشمے یعنی سند ریس ذوب جاتا ہے۔ مگر عقل اس کے خلاف ہے اس لئے کہ کرۂ زمین سورج سے کہی گناہ چھوٹا ہے تو اتنا بڑا سورج چھوٹی سی زمین میں کیسے ماسکتا ہے۔ یہاں دلیل عقلی قطعی ہے۔ اور دلیل نقلي ظنی ہے اس لئے کہ چشمے میں سورج کے غروب ہونے کا نظارہ ذوالقرین کی روایت کی جنہت بیان کیا گیا ہے قرآن کا اپنادعویٰ نہیں ہے۔

اب یہاں دلیل عقلی کو راجح قرار دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ سورج زمین میں غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ زمین سے بہت دور ہے۔ مگر دلیل نقلي کو بھی بالکل یہ ترک

نہیں کیا جائے گا بلکہ اس میں مناسب تاویل کی جائے گی کہ ذوالقرینین آبادی سے دور نکلے جہاں کوئی عمارت نہیں تھی جب سورج کو دیکھا تو انہیں یوں لگا کہ شاید سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے اس لئے کہ ان کی نظر وہ کی انتباہ ہی اتنی تھی۔ جیسا کہ عام مشاہدہ بھی اسی طرح ہے مگر درحقیقت سورج زمین سے بہت دور فضا آسمانی میں غروب ہوتا ہے۔

یہاں تعارض میں الدلیلین کی ممکنہ دو صورتیں اور بھی ہیں:

(1) دلیل نقلی ظنی ہوا اور دلیل عقلی وہی اور خیالی ہو۔

(2) دلیل تلقی قطعی ہوا اور عقلی وہی اور خیالی ہو۔

ان دونوں صورتوں میں بھی دلیل تلقی کو ترجیح حاصل ہوگی اس لئے کہ جب دلیل عقلی ظنی ہونے کی بناء پر متروک ہوتی ہے تو وہی ہونے کی صورت میں بطریق اولیٰ ناقابل جست ہوگی۔

انتباہ اول حدوث مادہ کے متعلق

اس بحث کو سمجھنے سے پہلے چند اصطلاحات کی وضاحت ضروری ہے:

مادہ اور ہیولی کی تعریف:

لغت میں ہر چیز کی اصل کو مادہ اور ہیولی کہا جاتا ہے۔ جبکہ اصطلاحی تعریف یوں کی گئی ہے مادہ جسم کے اندر اس جو ہر کائنات ہے جو جسم کے اتصال اور انفعال کو قبول کرتا ہے اور یہی جو ہر صورت جسمیہ اور اور صورت نوعیہ کے لئے محل ہے۔

صورت جسمیہ کی تعریف:

وہ بسیط جو ہر جو اعادہ ملاشہ یعنی طول عرض اور عمق کو قبول کرتا ہے اور اس کے بغیر مادہ

کا وجود ناممکن ہے یعنی مادہ اس کے بغیر نہیں پایا جاتا جب بھی مادہ پایا جاتا ہے صورت جسمیہ کے تحت پایا جاتا ہے۔

صورت نوعیہ:

وہ صورت جس کی بدولت اجسام مختلف انواع میں تقسیم ہوتے ہیں۔

صورت شخصیہ کی تعریف:

ہر چیز کی وہ خاص صورت جس کی بدولت وہ چیزنوں کے دیگر مشارکات سے ممتاز ہوتی ہے۔

مثال:

مثلاً زید موجودات میں سے ایک موجود چیز ہے اس کی بنیاد اور اصل "مادہ" ہے مادہ میں کچھ تغیرات رونما ہونے کے بعد اس کی کوئی سی صورت بن گئی مثلاً: مٹی سے پبلے کی کوئی بھی صورت تصور کریں وہ اس کی صورت جسمیہ کہلانی گی۔ پھر اس صورت جسمیہ میں تغیر ہوا تو مٹی کی شکل میں ظاہر ہوئی تو دیگر انواع ہوا، آگ اور پانی وغیرہ انواع سے ممتاز ہو کر یہ نوع تراب کی صورت اپنائی یہ اس کی صورت نوعیہ کہلانی گی۔ پھر مٹی سے نطفہ اور نطفہ سے نوع انسانی بن گیا یہ بھی اس کی صورت نوعیہ ہے، پھر جب خالد کی شخصیت میں رونما ہوئی تو نوع انسانی میں شریک افراد زید عمر بکر سے سے ممتاز ہو گیا یہ اس کی صورت شخصیہ کہلانی گی۔

قدیم بالذات:

و ذات جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو۔

قدیم بالزمان:

جو چیز ہمیشہ سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پبلے معدوم تھا پھر وجود میں آیا۔

واجب الوجود:

جس کا وجود ضروری ہواں لئے کہ دیگر تمام اشیاء کا وجود اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔

تفصیل عقلی:

اس کو تفہیم فرضی بھی کہا جاتا ہے، کہ عقل کسی چیز کا تصور کر کے اس کو کلی اقسام کی طرف تقسیم کرے، جیسے جسم مطلق کی تقسیم جسم نامی اور غیر نامی کی طرف۔

تفصیل ذاتی:

کسی خاص چیز کو تصور کر کے انسان اپنے وہم سے اس کے لئے اجزاء خیال کرے۔

تفصیل فکریہ یا قطعیہ:

آلہ کے ذریعے کسی چیز کے نکٹے بنا دینا۔ جیسا کہ آری سے نکڑی کو کاٹا جاتا ہے۔

اجزاء تحلیلیہ:

ایک چیز کے کثیر حصے ہونا جیسے گز کا نصف ثلث اور ربع یہ سارے گز کے اجزاء تحلیلیہ کہلاتے ہیں۔

اجزاء ترکیبیہ:

کسی چیز کا کثیر اشیاء سے مل کر ترکیبی صورت بن جائے تو وہ کثیر اشیاء اس کے اجزاء ترکیبیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے دیوار کے اجزاء ایسٹ سینٹ بھری وغیرہ ہیں۔

مادہ کے متعلق دو غلطیاں پائی جاتی ہیں:

پہنچنٹی:

فلسفہ کا عقیدہ ہے مادہ قدم ہے۔ جبکہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے قدم صرف اللہ تعالیٰ کی

ذات ہے اس کے خلاف کسی کو قدیم ماننا شرک ہے گویا فلاسفہ نے مادہ کو قدیم مان کر شرک کا ارتکاب کیا۔ فلاسفہ کے پاس اپنے نظریہ پر کوئی معتبر دلیل ٹوپیں ہے مگر انکل اور تخمینہ سے کام لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر مادہ کو قدیم نہ مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ مادہ پہلے معدوم تھا پھر وجود میں آیا تو عدم محسن سے کسی چیز کا وجود میں آنا سمجھے میں نہیں آتا۔

ابل اسلام کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ عدم فہم شی کسی چیز کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر آپ کی سمجھے میں مادہ کا مسبوق بالعدم (یعنی پہلے معدوم ہونا) سمجھے میں نہیں آتا تو ہمیں اس کا غیر مسبوق بالعدم (پہلے معدوم نہ ہونا) سمجھے میں نہیں آتا اس لئے کہ مادہ کے تمام لوازم اور اس کی مختلف صورتیں مسبوق بالعدم ہیں یعنی پہلے نہیں تھیں اور اب وجود میں آگئیں جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ساری مادہ کے لوازم اور صورتیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں بعد میں وجود میں آ گئیں۔

جدید فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ مادہ ایک مدت تک بغیر صورت کے رہا ہے پھر اس کے بعد کائنات کی صورت میں ظاہر ہوا۔

فلاسفہ کا یہ نظریہ صاف طور پر باطل ہے اس لئے کہ اس سے اجتماع نقضیں لازم آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ مادہ کا وجود بغیر صورت جسمیہ کے ممکن نہیں ہے۔ اگر بغیر صورت جسمیہ کے اس کا وجود مانا جائے تو وجود بالقوہ ہو گا۔ جو کہ دراصل عدم ہے۔ مگر جدید فلاسفہ اس کا وجود بغیر صورت کے بھی حقیقتاً یعنی وجود با فعل مانتے ہیں اس کا نتیجہ بھی ہے کہ مادہ موجود بھی تھا اور موجود نہیں بھی تھا۔

اور اگر فلاسفہ قدیم کی طرح ازل میں اس کا وجود صورت سمیت مانا جائے تو بھی مادہ کو قدیم ماننا باطل ہے اس لئے کہ مادہ بغیر صورت جسمیہ کے نہیں پایا جاتا اور صورت جسمیہ بغیر صورت نوعیہ کے نہیں پایا جاتا اور نوعیہ شخصیہ کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ تو اگر مادہ کو ازل

میں مانا جائے گا تو صورت شخصیہ سمیت اس کو موجود مانا پڑے گا۔ جب یہ مان لیا کہ مادہ صورت شخصیہ کے ساتھ ازal میں موجود تھا تو ہم کہتے ہیں صورت شخصیہ تو مختلف ہوتی رہتی ہے پہلے اس کی ایک طرح کی صورت شخصیہ تھی پھر دوسری (موجودہ کائنات کی) صورت اختیار کر لی۔ تو اس کی پہلی والی صورت کہاں گئی؟ وہ باتی ہے یا فنا ہو گئی؟ اگر یہ مانا جائے کہ اس کی پہلی صورت بھی باتی ہے تو ایک ہی شخص کی دو شخصی صورتیں ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دو شخصیتیں بن گیا یہ بالکل باطل ہے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی پہلی صورت زائل اور فنا ہو گئی تو زوال اور فنا تو حادث کی صفت ہے یعنی مادہ حادث ہو گیا اس لئے کہ قدیم پر زوال نہیں آسکتا۔ جب صورت شخصیہ فنا ہو گئی تو نوعیہ بھی فنا ہو گئی جب نوعیہ فنا ہو گئی تو جسمیہ بھی فنا ہو گئی اور جب جسمیہ فنا ہو گئی تو مادہ بھی فنا ہو گیا اس لئے کہ مادہ صورت جسمیہ کے بغیر نہیں پایا جاسکتا تو اس صورت میں تو مادہ کا معدوم ہونا ثابت ہو گیا تو اس کو قدیم کیسے مانا جاسکتا ہے۔

مادہ کے قدیم نہ ہونے کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ کہ اگر ہم مادہ کو قدیم مانیں گے تو قدیم وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو یعنی اس کا وجود خود بخود ہو اور یہ تعریف واجب الوجود کی بھی ہے یعنی جب مادہ قدیم ہے تو مادہ واجب الوجود بھی ہو گا اور واجب ذات کی صفات بھی واجب ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے تو اسکی صفات بھی واجب ذات کی صفات کی محتاج ہیں یعنی نہ اللہ کی ذات کسی محتاج ہے اور نہ اس کی صفات کسی کی محتاج ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مادہ کی صفات مثلاً حرکت و سکون، حرارت و برودت یعنی تمام کائنات جو مادہ کی صفات ہیں یہ سب بھی کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کائنات اللہ کی محتاج نہیں ہے تو پھر اللہ کے وجود کی ضرورت ہوئی (نعوذ باللہ) یعنی مادہ کو قدیم مانے سے اللہ کی ذات کی لغتی لازم آتی ہے جو یقیناً باطل ہے۔

فلاسفہ کی طرف سے اعتراض ہو سکتا ہے۔ اعتراض کہنے سے پہلے ایک تمہید کو سمجھنا ضروری ہے۔ اعتراض کی تمہید یہ ہے کہ مادہ کے بارے میں فلاسفہ کے دو نتیجہ ہیں۔ بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ مادہ پہلے ایسے ذرات کی صورت میں تھا جو حماقتی سے نہیں ہو سکتے البتہ عقلانی یا حماقتی سے نہیں۔ مادہ کا کائنات کی صورت میں ظاہر ہوئے اور مادہ اپنی ذات کے لحاظ سے اب بھی موجود ہے صرف ترکیبی صورت میں اس کا ظہور ہوا۔ یہ حکیم دینقراطیس کا نتیجہ ہے۔

جبکہ بعض دوسرے فلاسفہ کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے مادہ مجھے صورت میں تھا پھر جب وہ اجزاء میں منقسم ہو گیا تو عالم کا ظہور ہوا۔ کائنات میں جو مختلف صورتیں نظر آ رہی ہیں یہ سب مادہ کے اجزاء ہیں مگر اجزاء تحلیلیہ ہیں۔

اب اعتراض ملاحظہ کیجئے یہ اعتراض ہماری بیان کردہ اس دلیل پر وارد ہوتا ہے جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مادہ کی پہلی صورت شخصیہ باقی ہے یا نہیں؟ اگر باقی ہے تو ایک شخص سے دو شخص بنانا لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے اور اگر باقی نہیں ہے بلکہ فنا ہو گئی ہے تو فنا ہونا حدوث کی دلیل ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ فلاسفہ کے مذکورہ دونوں مذہبوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دلیل درست نہیں ہے اس لئے کہ مادہ اپنی ذات کے لحاظ باقی ہے۔ پہلے مرکب تھا پھر اجزاء تحلیلیہ کے اعتبار سے متفرق ہو گیا یا پہلے متفرق تھا پھر مرکب ہو گیا ذات تو دونوں صورتوں میں باقی ہے اس پر فتا طاری نہیں ہوا لہذا مادہ قدیم ہوا۔

جواب:

اہل اسلام کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ مادہ چاہے جس صورت میں تھا ظاہر ہے مادہ کے دو ہی حال ہو سکتے ہیں یا تو پہلے متحرک تھا یا پھر ساکن۔ یہ دونوں حالتیں

مادہ کی صفات ہیں۔ اگر پہلے متحرک تھا پھر ساکن ہو گیا تو حرکت زائل ہو گئی اور اگر پہلے ساکن تھا پھر متحرک ہو گیا تو سکون زائل ہو گیا حالانکہ قدیم پر زوال نہیں آتا مگر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء، یعنی کائنات پر کبھی حرکت طاری ہوتی ہے تو کبھی سکون، حرکت سے سکون فتاہ بوجاتا ہے اور سکون سے حرکت۔ معلوم ہوا کہ مادہ کے یہ اجزاء قدیم نہیں ہیں جب اجزاء قدیم نہیں ہیں تو مادہ کیسے قدیم ہو سکتا ہے؟

جب تک ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں عدم مخفی سے کسی چیز کا وجود سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سمجھ میں نہ آتا محال ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر انسان کے لئے محال ہے تو اللہ کی قدرت انسان جیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر انہیں مادہ کا حادث ہونا سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں اسی چیز کا قدیم ہونا سمجھ میں نہیں آتا جو ہمیشہ متغیر ہوتی رہتی ہے کبھی ساکن کبھی متحرک۔ تو عدم فہم دونوں طرف ہے لہذا عدم فہم سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

اب تک جتنے دلائل عرض کئے گئے ان سے قطع نظر اگر غور کیا جائے تو مادہ قدیم نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ فلاسفہ کے پاس اس کے قدیم ہونے کی دلیل نہیں ہے اور ہم نے اپنے دلائل سے قطع نظر کر دیا تو مادہ کا قدیم ہونا اور نہ ہونا دونوں باتوں کا احتمال ہے یعنی دونوں جانب ممکن ہے اور ممکن کا حکم یہ ہے کہ اس کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی اس لئے کہ عقل کے نزدیک دونوں باتوں کا احتمال ہے تو ممکن کا حکم یہ ہے کہ اس میں دلیل نقلي کو دیکھا جاتا ہے جس جانب دلیل نقلي ہوتی ہے اسی جانب کو قبول کرنا واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ فلاسفہ کے پاس تو مادہ کے قدیم ہونے کی دلیل نقلي نہیں ہے مگر ہمارے پاس دلیل نقلي ہے کہ مادہ پہلے نہیں تھا، معدوم تھا بعد میں وجود میں آیا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے {بدیع السفوت} ”اللہ تعالیٰ آسمانوں کو عدم سے وجود دینے والے ہیں“ اس لئے کہ ابداع

کامعنی ہے ”عدم سے کسی چیز کو وجود دینا۔“ اور تبی کریم شریف نے فرمایا: ”کان اللہ لم یکن
معده شئٰ“ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی موجود تھی جب کسی بھی
چیز کا وجود نہیں تھا۔ دلیل نکلی اس بات پر دال ہے کہ مادہ قدیم نہیں ہے لہذا اس کے حادث
ہونے کا اعتقاد واجب ہے۔ اور قدیم ہونے کا اعتقاد اشرک اور غلط ہے۔

انتباہ ثانی

اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر چلتی ہے جا بے نظام کائنات کی
موجودہ ترتیب کے خلاف کام کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر بھی قادر ہے۔

مگر جدید تہذیب یافتہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خلافِ فطرت یعنی موجودہ ترتیب کے
خلاف کام پر قدرت نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے اس دعویٰ پر ایک دلیل عقلی اور دوسری دلیل نکلی
پیش کرتے ہیں۔

دلیل عقلی:

مشائخ کائنات میں یہ تا عدد اور قانون جاری ہے کہ آگ جلاتی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ کسی چیز پر آگ لگی ہو اور وہ چیز جلی نہ ہو۔ اسی طرح کائنات کا یہ نظام ہے کہ میاں بیوی
کے باہمی ملاپ سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بغیر باپ یا بخیر ماں کے بچے کبھی پیدا نہیں ہوا۔
لہذا اس قانون کے خلاف ہونا محال اور باطل ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ انبیاء، کرام علیہم
السلام کے مجزرات کا انکار کرتے ہیں اور ان واقعات سے یا تو بالکل انکار کرتے ہیں یا ان
میں باطل تاویلیں کرتے ہیں۔

جواب:

جواب سے پہلے یہ تمہید کا سمجھنا ضروری ہے۔

تمہید

تمہید میں چند اصطلاحات ملاحظہ کیجئے:

استقراء کی تعریف:

ایک کلی کی جزئیات میں غور کرنے کے بعد جو حکم مشترک نکلتا ہے وہی حکم ان جزئیات کے کلی پر لگانے کا نام استقراء ہے۔ استقراء کی دو قسمیں ہیں:

(1) استقراء تمام:

کلی کی تمام جزئیات کے احوال میں غور کر کے ایک مشترک حکم نکالا جائے پھر وہی حکم اس کلی پر لگایا جائے۔

مثال:

جیسے کہا جائے کہ ہر حیوان یا تو ناطق ہے یا غیر ناطق (یہ صفری ہے)..... اور ہر حیوان چاہے ناطق ہو یا غیر ناطق حساس ہے (یہ کبریٰ ہے) اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر حیوان حساس ہے۔

حکم:

استقراء کے اس قسم کا حکم یہ ہے کہ یہ یقین اور قطعیت کا فائدہ دیتا ہے اور کلی کا حکم ہر ہر جزئی کو شامل ہوتا ہے۔

(2) استقراء ناقص:

استقراء کی دوسری قسم ہے استقراء ناقص۔ اس کی تعریف یوں ہے کہ کلی کی اکثر جزئیات میں غور کر کے ان سے ایک حکم مشترک نکالا جائے اور پھر وہی حکم کلی پر لگایا جائے۔

مثال:

کھاتے وقت ہر حیوان کا نچلا جڑا ہلتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے جو حیوانات میں غور کرنے

سے نکالا گیا ہے۔

حکم:

استقراء کی یہ قسم ظن کافاً نہ دیتی ہے اس لئے ممکن ہے کہ کوئی جزئی اس حکم سے خارج ہو جیسا کہ حیوانات میں سے مگر پچھنائی حیوان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا اوپر والا جبڑا ملتا ہے۔

نسبت ضرورت کی تعریف:

جانب مخالف سے امکان کی نفی کو ضرورت کہا جاتا ہے، یعنی جو نسبت ثابت ہے وہ کبھی جدا بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کے خلاف واقع ہونا ممکن بھی نہیں ہوتا۔

جیسا کہ انسان پر حکم لگایا جاتا ہے کہ ہر انسان حیوان ہے اس کے خلاف حکم ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان غیر حیوان ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔

نسبت دوام کی تعریف:

کسی چیز کے لئے نسبت بہیش کے لئے ثابت ہو مگر اس کے خلاف واقع ہونا بھی ممکن ہو۔ جیسا کہ حیوان پر حکم لگایا جائے کہ ہر حیوان انسان ہے مگر اس کے خلاف بھی ممکن ہے کہ کوئی حیوان غیر انسان ہو جیسا کہ حاگھوڑا اور غیرہ۔

فائندہ:

یہ قاعدہ بھی جان لینا چاہئے کہ استقراء، ناقش سے جو حکم ظنی ثابت ہوتا ہے وہ نسبت دوام پر مشتمل ہوتا ہے نسبت ضرورت پر نہیں یعنی اس کے خلاف بھی نسبت کا وقوع ممکن ہوتا ہے۔ اگر خلاف نسبت کی نفی کرنی ہو تو اس کے لئے دوسری مستقل دلیل پیش کرنی چاہئے، استقراء سے جانب مخالف کی نفی درست نہیں۔

اب منکرین کی دلیل کا جواب ملاحظہ کئیے کہ منکرین نے موجودہ نظام میں غور کر کے بطور استقرار، یہ حکم لگایا ہے کہ اس کے نظام کے خلاف کوئی واقعہ ممکن نہیں ہے مگر ان کا یہ استدلال استقرار، ناقص کی قبیل سے ہے لہذا یہ حکم ظنی ہے اور ظن سے دوام آنے تاثبت ہوتا ہے مگر ضرورت نہیں۔ لہذا موجودہ نظام کے خلاف کسی واقعہ کا روپ نہ بونا بھی ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیا، علیهم السلام کے ہاتھوں سے مجزات کی شکل میں دکھایا ہے۔ فلائیں کو چاہئے کہ ان مجزات کی ظنی کے لئے کوئی دوسری دلیل پیش کریں۔

دوسراء جواب:

دوسراء جواب یہ ہے کہ منکرین کا یہ قاعدہ ظنی ہے اور جہاں دلیل ظنی کے خلاف کوئی دوسری دلیل قوی موجود ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اور ظنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجزات کے ثبوت پر قوی دلائل موجود ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے ان مجزات کا تذکرہ فرمایا ہے اور قرآنی آیات دلائل قطعیہ ہیں۔ اور جہاں تک قرآنی آیات میں منکرین تاویلات کرتے ہیں اور قرآن کو ظاہری معنی سے ہٹا کر دوسرے معانی پر حل کرتے ہیں یہ بھی ناطق ہے اس لئے کہ تاویل ضرورت اور حاجت کے وقت کی جاتی ہے، بلا ضرورت تاویل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مجزات کے مانے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا ان میں تاویل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر بلا ضرورت تاویل کی اجازت دی جائے تو قرآن کی کوئی آیت بھی اپنے ظاہری معنی پر نہیں رہ سکے گی اور اس طرح قرآن کریم کو ہر شخص اپنی خواہش کی طرف پھیرے گا۔ جو صریح گمراہی ہے۔

منکرین کی دلیل نقائی:

منکرین اپنے دعوئی کے ثبوت پر قرآن کریم سے دلیل نقی بھی پیش کرتے ہیں ارشاد ہے {ولن تجد لستة الله تبدیلا} "کہ اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں پاؤ گے" لہذا اللہ تعالیٰ نے اس

نظام کائنات کو جیسا جایا ہے اس کے خلاف کوئی ایک واقعہ بھی رونما نہیں ہو سکتا۔

جواب:

اس آیت سے استدلال کرنا تب درست ہو گا جب ”سنۃ“ سے تمام سنتیں مراد ہوں اور تبدیل کرنے والا عام ہو چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا غیر اللہ ہو۔ حالانکہ یہاں سنت سے خاص امور مراد ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلیل و بربان کے لحاظ سے ہمیشہ حق کو خلپہ دیتے ہیں کبھی تم حق کو مغلوب نہیں دیکھو گے کہ باطل کی دلیل حق کے مقابلے میں غالب ہوا یا کبھی نہیں ہو سکتا۔

اور اگر سنت کو عام مانا جائے تو پھر تبدیل کرنے والا عام نہیں ہے بلکہ اس سے غیر اللہ مراد ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور افعال کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلے دنیا کے حکمرانوں کے فیعلوں کی طرح نہیں ہیں کہ مختلفین کے دباؤ سے بدلتے ہیں اسیں یعنی اللہ کا کیا ہوا وعدہ پکا ہوتا ہے۔ غیر اللہ اسے تبدیل نہیں سکتا۔ اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ اپنی سنت کو تبدیل کرنے پر قادر ہے یا نہیں آیت اس بارہ میں بالکل خاموش ہے لہذا اس آیت سے اللہ کی عموم قدرت کی نظری پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

منکرین کا ایک اور طرز استدلال:

منکرین اپنے دعوئی پر ایک اور طریقہ سے بھی استدلال کرتے ہیں جو عقلی اور نقلي مقدموں سے مرکب ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت و عادت ” وعدہ فعلی“ ہے، اور اللہ کے وعدہ کے خلاف بونا محال ہے جیسا کہ ارشاد ہے { انَّ اللَّهَ لَا يَغْلِفُ الْمَيْعَادَ } اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ عادت اللہ کے خلاف بونا محال ہے۔

جواب:

دوسرے مقدمہ تو ہمیں تسلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خاصی نہیں فرماتے۔ لیکن پہلا مقدمہ کہ "اللہ تعالیٰ کا یہ جاری کر دو نظام کائنات اللہ تعالیٰ کا وعدہ فعلی ہے" ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لئے کہ مثلاً برسات کے موسم میں جب کبھی مسلسل بارش برستی ہے تو گویا یہ عادۃ اللہ ہو گئی ہے کہ برسات میں ضرور بارش ہو گئی مگر مشابہ سے ثابت ہے کہ کبھی کبھی برسات ہی کے موسم میں بارش نہیں بھی برستی اگر یہ اللہ کا وعدہ فعلی ہوتا تو بارش نہ رکتی۔

اسی طرح مادہ کے مختلف انواع ہیں اور ہر نوع کے متعدد افراد ہوتے ہیں اور یہی افراد اپنے نوع کے تحت مدتیں تک موجود ہوتے ہیں مگر پھر بدل بھی جاتے ہیں اگر ایک ہی نوع میں مدتیں پایا جانا وعدہ فعلی ہوتا تو اس میں تخلص یعنی تبدیلی نہ آتی۔

مثال:

جبیا کہ ڈارون فلسفی کاظمیہ ہے کہ تمام انواع کی ایک ہی اصل ہے مگر مردی زمانہ کے ساتھ ساتھ نوع اصلی متغیر ہوتا رہا اور مختلف انواع کی صورت میں اس کاظمیہ کرنے لگا مثلاً نوع انسانی پبلے کیڑے کی صورت میں تھا پھر بندر کی صورت میں بدل گیا اور اب انسانی صورت میں موجود ہے۔ اس کاظمیہ ارتقاء کہا جاتا ہے۔

اس کے برعکس ابل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزِ اول سے مختلف انواع پیدا فرمائے ہیں۔ مثلاً انسان کی اصل نطفہ ہے تو نطفہ ایک الگ نوع ہے پھر نفط خون میں بدل گیا خون الگ نوع ہے پھر خون گوشت میں بدل گیا گوشت الگ نوع ہے پھر اس گوشت سے انسان بنتا تو انسان الگ نوع ہے۔ اس کاظمیہ نشوء کہا جاتا ہے۔

دونوں مسلک کے لحاظ سے انواع میں اختلاف ظاہر ہوتا رہا ہے۔ ابل حق کے مسلک کے مطابق نطفہ کی صورت میں انسان ایک مدت رہا ہے اور ڈارون کے مسلک کے لحاظ

انسان بندر کی صورت میں ایک طویل مدت تک رہا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ فعلی ہوتا تو اس میں تغیر اور تبدیلی نہ ہوتی۔ مگر اس میں تبدیلی ہوتی ہے معلوم ہوا کہ موجودہ نظام کا وعدہ فعلی کا نام دینا غلط ہے۔

اعتراض:

ہم نے منکرین کے تیسری دلیل کا جواب دیا ہے اس پر اعتراض پر وارد ہوتا ہے کہ نظام کائنات وعدہ فعلی نہیں ہے اس لئے برسات کے موسم میں کبھی بارش ہوتی ہے تو کبھی نہیں ہوتی۔ اعتراض یہ ہے کہ بارش کا بر سنا اور زکنادونوں عادۃ اللہ کے تحت داخل ہیں اس لئے کہ اصل عادۃ اللہ اسباب طبیعہ (ظاہری اسباب) کے مطابق آثار کا مرتب کرنا ہے تو امطار (بارش بر سنا) اور اسکے (بارش کا نہ بر سنا) مختلف اسباب کے مختلف آثار ہیں عادۃ اللہ اپنی جگہ برقرار ہوتی ہے؟

جواب:

آپ نے کہا کہ عادۃ اللہ اپنی جگہ قائم ہوتی ہے اور اسباب طبیعہ کی بناء پر مختلف آثار رونما ہوتے ہیں تو ہم بھی بھی کہتے ہیں کہ اسباب سے آثار کا نکلننا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ظاہری اسباب سے موافق واقعات کو ظاہر فرماتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف واقعہ کا ظاہر کر دیتے ہیں اور ظاہری نظام کے برخلاف ہو جاتا ہے۔ گویا موجودہ نظام کے موافق اور مخالف واقعات دونوں اللہ کی قدرت اور مشیت سے رونما ہوتے ہیں، آگ کا جانا بھی اللہ کے ارادہ سے ہے اور آگ کا نہ جانا بھی اللہ کے ارادہ سے ہوتا ہے، پھر اس سے انکار کی منجاش تو نہ رہی۔

امتابہ شمارث

وہی کی تعریف:

وہی کا لغوی معنی ہے ”تیز اشارہ“۔ اصطلاح میں اس کا ام الہی کو وہی کہا جاتا ہے جو انہیاء، علیہم السلام کی طرف بھیجا جاتا ہے یا تو فرشتے کے ذریعے یا غائب سے آواز سننے کی صورت میں یا بھی اور رسول کے دل میں القاء کیا جاتا ہے۔

وہی کے متعلق علمی:

بعض مدعیانِ اجتہاد کا کہنا ہے کہ وہی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں پر امت کی اصلاح کی فکر کا غلبہ ہو جایا کرتا ہے وہ لوگوں کے احوال دیکھ کر دل میں درد محسوس کرتے ہیں اسی فکر میں راتوں کی نینداز جاتی ہے ان انکار کا ان پر ایسا تسلیم ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں مختلف طرح کے خیالات جنم لینے لگتے ہیں پھر یہ خیالات ان کے ذہنوں میں کچھ اس طرح پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں یا کوئی وہی صورت دیکھنے لگتے ہیں ان آوازوں کو وہی الہی اور ان صورتوں کو فرشتوں کا نام دینے لگتے ہیں حالانکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی ان مدعیانِ اجتہاد کے نزدیک وہی (نعوذ باللہ) وہم کا نام ہے۔ ان لوگوں نے وہی الہی کی حقیقت سے اس لئے انکار کیا ہے کہ یہ لوگ ملائکہ کے وجود کو نہیں مانتے اور وجود ملائکہ کو محال سمجھتے ہیں جونکہ وہی بواسطہ ملائکہ تازل ہوتی ہے اس لیے وہی کی حقیقت بھی بدلتی ہے۔

جواب:

یہ لوگ وہی کی جو حقیقت بتلاتے ہیں یہ صریح نصوص کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے نصوص صراحتاً وال ہیں کہ ”وہی“، ”فیضِ الہی“ ہے جو کبھی بواسطہ فرشتے کے اور کبھی بصورت القاء نبی کو عطا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ”نَفْثَةٌ فِي ذُرْعَىٰ“ کہ جبریل نے

میرے دل میں القاء کیا،” دوسری حدیث میں ہے ”یا تینی الملک أحیاناً فی ممثل لی،“ کبھی فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور اپنی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

دوسرے جواب:

دوسرے جواب یہ ہے کہ اگر وحی وہم یا نبی پر سوار ہونے والی فکر کا نام ہے تو وحی صرف قوم کے شرکیہ عقائد کی تردید اور عقیدہ توحید پر مشتمل ہوئی چاہئے تھی حالانکہ قرآن کریم نے ان بیانات علیہم السلام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، دیگر بہت سارے مضامین بھی بیان کئے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں کلامِ الہی ہے۔ فکر و خیال کا تسلط نہیں ہے۔

دوسری غلطی:

دوسری غلطی معجزات کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے مجزہ کی تعریف ملاحظہ کیجئے۔

مجزہ کی تعریف:

ایسے خلاف عادت امور جو ظاہری اسباب کے بغیر ان بیانات علیہم السلام کے باخنوں سے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں۔

بعض محدثین نے مجزہ کی حقیقت سے انکار کیا ہے جن نصوص میں ان بیانات علیہم السلام معجزات کا ذکر ہے ان میں تاویل کر کے امور عادیہ کے موافق قرار دیا ہے۔ جیسا کہ موئی علیہ السلام کے مجزہ کے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے {اضرب بعضاک الحجر} موئی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو جب مارا تو پتھر سے بارہ چشے پھوٹ پڑے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس کا اصل واقعہ یوں ہے جب موئی علیہ السلام کی قوم کو بیاس لگ کر گئی تو موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا پر نیک لگانگا کر پہاڑ پر چڑھو جب موئی علیہ السلام اپنے عصا کی مدد سے پہاڑ پر چڑھ گئے تو وہ بار بار چشمے دیکھے یعنی یہ واقعہ عادت کے موافق ہے یہ خلاف

عادت یعنی معجزہ نہیں ہے۔

اور جن واقعات میں تاویل ممکن نہیں ہے ان واقعات کو نظر بندی کی قبل سے قرار دیا ہے کہ دیکھنے والوں کی نظروں کو سخرا کر کے اپنی مرثی کے مطابق دکھایا گیا جسے موسیٰ علیہ السلام کی لائشی سے حقیقت میں سانپ نہیں بنابلکہ لوگوں کو صرف سانپ کی شکل نظر دکھائی دیئے۔

جواب:

اس کا جواب انتباہ ثانی میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ لوگ ان امور سے اس لئے انکار کرتے ہیں کہ ان امور کو خلاف فطرت سمجھ کر محال مانتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے جس طرح اس نے اسباب طبیعہ یعنی ظاہری اسباب کو بغیر اسباب کے پیدا فرمایا اس طرح وہ بغیر اسباب کے خلاف عادت واقعات کو بھی ظاہر فرماسکتا ہے۔ اگر ہم اسباب کی تخلیق کو بھی اسباب کی وجہ سے مانیں گے تو تسلیل لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔

تیسرا غلطی:

متعددین معجزات کو نبوت کی دلیل نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ نبوت کی دلیل صرف عمدہ صفات اور اچھے اخلاق ہیں یعنی جس کے اخلاق اچھے ہوں وہی نبی ہے۔ کسی نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ اس لئے نہیں ہے کہ ایک جادوگر اور نظر بندی کا ماہر بھی خلاف عادت چیزیں دکھاسکتا ہے پھر اس کو بھی نبی مانا چاہئے؟

جواب:

ان حضرات کی یہ دلیل بالکل ظلط ہے اس لئے کہ جادو اور نظری بندی خرق عادت یعنی خلاف عادت نہیں ہے اس لئے کہ جادو اور نظری بندی کے لئے بھی اسباب طبیعہ ہوتے ہیں صرف وہ اسباب نظروں سے مختنی ہوتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ ایک جادوگر کا مقابلہ

دوسرے جادوگر کر سکتا ہے۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات اسے ب طبیعہ کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں اسی وجہ سے نبی کے معجزہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ معجزات اور نظریہ بندی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

جبکہ اخلاق حنفی کا تعلق ہے تو وہ بھی نبی کی نبوت کی دلیل ہے اس لئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق بھی اتنے بلند ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی معجزات بھی نبوت بھی کی دلیل ہیں اور اخلاق کریمانہ بھی۔ اس لئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مخالفین دو طرح کے تھے ایک طبقہ وہ تھا جو عقل و فہم کا مالک تھا جو اخلاق کو سمجھتے تھے اس طبقہ کو انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے علم و اخلاق کے ذریعے نبوت کی حقانیت سمجھائی۔ مخالفین کا دوسرا طبقہ وہ تھا جو جا بل اور نا سمجھ تھا ان کے نزدیک اچھے اور بے اخلاق کی تیز نہیں تھی ایسے لوگوں کو خرق عادت و افعال یعنی معجزات دکھا کر نبوت کی حقانیت سمجھائی گئی جن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا اور بالآخر صاحب معجزہ کو نبی ماننے پر مجبور ہوئے۔

چوتھی غلطی:

محبد دین نے نبوت کو صرف اخروی معاملات کے متعلق قرار دیا ہے، دنیاوی معاملات میں ہر انسان آزاد ہے جس طرح چاہے معاملات کو حل کرے، دین اور اسلام میں دنیاوی معاملات کے لئے کوئی اصول نہیں ہیں۔

جواب:

قرآن و حدیث کے صریح نصوص سے ثابت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں بھی آزاد نہیں ہے بلکہ نبی ﷺ نے اس کے لئے بھی اصول بتائے ہیں۔ جیسا کہ حضرت زینب بنت جحش اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کے معاملہ میں قرآن کریم

کی یہ آیت نازل ہوئی {ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً أَذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لِهِمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کسی معاملہ کا فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد اور عورت کو اس کے متعلق کوئی اختیار نہیں ہے۔

اشکال:

اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے ”ایک دفعہ آپ ﷺ ایک باغ کے قریب گزرے، دیکھا کہ لوگ طلاق یعنی مذکرا اور مونث درختوں کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: لولم تفعلوا کان خیرا“ اگر تم یہ نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا تو کب صور کی فعل خراب نہیں۔ انہوں نے شکایت کی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اذا کان شینا منْ امْرِ دُنْیَا کم فَشَأْنَکُمْ بِهِ وَإِذَا کان شینا منْ امْرِ دِینِکُمْ فَالیٰ“ جب دنیاوی معاملہ ہو تو تم اسے خود ہی حل کر لیا کرو اور جب دینی معاملہ ہو تو وہ میری طرف لوٹاو۔ یہ حدیث صاف بتلارہی ہے کہ نبی ﷺ نے دنیاوی معاملے کو لوگوں کے حوالے کئے ہیں۔

جواب:

نبی ﷺ کا یہ فرمان بطور مشورہ تھا، نہ کہ بطور حکم شرعی۔ ورنہ یہ تو بدیکی بات ہے کہ حکومتی ارکان اپنی عوام کے لئے عالمی قوانین یعنی خاندانی امور کے متعلق قوانین بھی جاری کرتے ہیں تو خالق حقیقی کو کیسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بندوں کے ذاتی معاملات کے لئے قوانین نہیں دے سکتا بلکہ اللہ ہی انسان کے لئے جو فیصلہ طے فرمائے اسی میں انسان کی خیر اور بحلاٰئی ہے اس لئے کہ دنیاوی الغیب اور حکیم ذات ہے۔

پانچویں غلطی:

متجد دین کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات کے متعلق شریعت نے جواہام بیان کئے

ہیں ان میں زمانہ کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے اور دلیل میں کہتے ہیں کہ زمانہ کے لحاظ سے احکام میں تبدیلی کی اجازت خود شریعت نے دی ہے جیسا کہ پچھلے انبیاء کی شریعت کے جواہکام زمانہ محمدی کے مناسب نہیں تھے وہ شریعت محمدی نے مفسوخ کر دیئے اور جواہکام مناسب تھے ان کو برقرار رکھا جیسا کہ شریعت نیسوی کے بہت سارے احکام مفسوخ کر دیئے گئے ہیں حالانکہ حضرت عیینی علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کے درمیان کا عرصہ صرف ساڑھے پانچ سو سال ہے۔ اور اب تو آپ ﷺ کے زمانہ کو گزرے ہوئے پندرہ سو سال ہو چکے ہیں تو اتنے طویل زمانے کا تقاضا بھی ہے کہ زمانہ کے مناسب تبدیلی کر دی جائے۔

جواب:

چونکہ ان لوگوں کے نزد یک شرعی احکام سے اصل مقصد عمل نہیں ہے اس لئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم کامل ہے وہ عالم الغیب ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ایسے احکام کلیے جاری فرمادے جو تاقیامت ہر زمانہ کے مناسب بھی ہوں اور ان میں ہر زمانہ کی مشکلات کا حل بھی ہو۔ اور اللہ نے شریعت اسلام کو ایسا ہی بنایا ہے۔

اگر کوئی شخص کسی شرعی امر سے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے یا اس پر عمل کو مشکل سمجھتا ہے تو وہ اس کی اپنی قلبی قیادت اور عمل سے دوری کا نتیجہ ہے احکامِ اسلام میں کوئی ضيق یعنی تنگی اور حرج نہیں ہے۔ یہ الزام احکام شریعت پر تبلکاری جاتا جبکہ تمام لوگ ان پر عمل کو ممکن نہ سمجھیں، حالانکہ اگر کچھ لوگ بے عمل ہونے کی وجہ سے احکامِ اسلام پر عمل کو مشکل سمجھتے ہیں تو بہت سارے مسلمان اعمال کے پابند بھی تو نظر آتے ہیں وہ کس طرح بخوبی ان پر عمل پیرا ہیں۔ معلوم ہوا کہ احکام کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک ذاکر کسی مریض کو

کسی چیز کے کھانے کا کہتا ہے مگر وہ چیز مرینگ کو اپنی بستی میں مہیا نہیں ہے تو کیا الزام ڈاکٹر پر آتا ہے کہ اس نے حرج میں ڈال دیا یا ان بستی کے تاریخوں پر الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کی اشیاء تک کا انتظام نہیں کرتے۔

ہاں کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ شریعت نے کوئی حکم عام مصلحت کی بناء پر جاری کیا ہے مگر کسی کو اس سے خفی حرج لازم آئے تو بھی مصلحت عامہ کو دیکھ کر اسے قبول کرنا ہو گا۔ اور ایسا تو تقریباً ہر قانون میں ہوتا ہے۔

چھوٹی غلطی:

متجددین نے اپنی طرف سے احکام شریعت کی علیم نکالیں پھر جہاں علت پائی جاتی ہے تو حکم کو مان لیتے ہیں اور جہاں علت کو نہیں دیکھ پاتے تو حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اس طرح وہ اپنی مرضی کے مطابق احکام میں تبدیلی اور تحریف کرتے رہتے ہیں جیسا کہ وضو کی علت نظافت ہے اور کہتے ہیں کہ ہم بغیر وضو کے بھی نظافت حاصل کر سکتے ہیں تو وضو کی کیا ضرورت ہے؟ اور بغیر وضو کے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز سے منصود اخلاق کی تہذیب ہے ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہسود اور تصویر کی حرمت تقریباً تمام احکام میں تحریف کر کے اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں۔

جواب:

ان کا یہ طریقہ کار بالکل غلط اور باطل ہے اس لئے کہ شریعت نے بہت سارے احکام کو محض بطور عبادت فرض کیا ہے ان میں کوئی عقلی وجہ نظر نہیں آتی۔ کیون کہ شریعت کا منصود بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جن چیزوں کو احکام کی علت قرار دیتے ہیں کیا یہی حقیقت میں ان کی علیم ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ان احکام کے

آثار ہوں جیسا کہ بعض دواؤں کے خاص خاص آثار ہوتے ہیں۔

اسی طرح ایک شخص کسی حکم کی ایک علت بتا رہا ہے تو دوسرا شخص اپنی سمجھے کے مطابق اس کی دوسری علت بتائے گا تو ایک کی علت کو دوسرے کی علت پر کیسے ترجیح دی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں تعارض کی وجہ سے دونوں عل泰山 ساقط الاعتبار ہوں گی۔ اور علت کے ساقط ہونے سے اصل حکم ہی ساقط ہو جائے گا تو پھر دین پر عمل کیسے ممکن ہو گا۔

اس سے ایک اور بات بھی متفرع ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور احکام کو علتوں پر موقوف رکھا جائے تو منکرین اسلام کو احکام اسلام کو باطل کر دینے کا موقعہ ہاتھ آجائے گا جو دین کے لحاظ سے بہت بر بادی ہے۔

در اصل احکام شرعیہ "قوانين الربیہ" ہیں اور قانون کی عل泰山 نہیں نکالی جاتی بلکہ قانون کے سامنے سرتسلیم خم کر دینا پڑتا ہے۔ قانون بنانے والے کے علاوہ کسی اور کو قانون میں تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔

اشکال:

آپ نے کہا کہ اگر علت نکالنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو اس سے مخالفین اسلام کو موقوٰعہ جائے گا کہ اسلام کے احکام کو باطل ثابت کرنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ مجتہدین تو احکام کی علتوں کا اخراج کرتے ہیں ان کو بھی اس سے روکنا چاہئے؟

جواب:

مجتہدین کا مقصد دین پر عمل کرنا ہوتا ہے تاکہ جہاں شریعت نے کوئی صریح حکم نہیں بتایا اس کی طرف حکم منصوص کو متعددی کر کے اس پر بھی عمل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتہاد کے لیے علوم کا ماہر ہونا شرط ہے۔ جبکہ ہمارے دور کے مجتہدین کا حال یہ ہے کہ نہ قوانین کا مقصد عمل ہے نہ ان کے پاس علم۔ پھر کیسے ان کو عل泰山 نکالنے کی اجازت دی

جاسکتی ہے؟
ساتویں غلطی:

مسجد دین کہتے ہیں کہ جونبوت سے انکار کرے اس کے باوجود وہ نجات پائے گا اس لئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت صرف عقیدہ توحید کے لئے ہوئی ہے لہذا جو عقیدہ توحید کا قائل ہو گا وہ نجات پائے گا اگرچہ انبیاء کی نبوت کو نہیں مانتا۔

جواب:

بہت سارے نصوص سے ثابت ہے کہ منکرِ ثبوت ہمیشہ کے لئے جہنمی ہو گا جیسا کہ ارشاد ہے {ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاً أو نكراً هم الظفرون حقاً وأعتقدنا للظفرين عذاباً أليماً} ”بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض (رسولوں) پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان راستہ اختیار کریں۔ یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

عقل کے لحاظ سے بھی منکر رسول جہنمی ہے کیونکہ جو رسول کا انکار کرتا ہے وہ دراصل خالق کا انکار کرتا ہے اس لئے کہ ایسا شخص اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا {محمد رسول اللہ} ”محمد اللہ کے رسول ہیں“ جس شخص کو اللہ نے رسول بنایا اس کی رسالت سے انکار اللہ کی آیت سے انکار ہے۔ جیسا کہ کوئی حاکم کو مانتا ہے مگر حاکم کے نمائندہ کو نہیں مانتا تو کیا وہ حاکم کے ہاں قرب پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ حاکم اس کو سزا دے گا۔

انتباہ رائج

اصول شرع چار ہیں: (1) کتاب اللہ (2) سنت رسول (3) سنی شیخیہ (4) اجماع (Qiyas) کتاب اللہ کے مطابق دو غلطیاں واقع ہوئی ہیں:

پہلی غلطی:

پہلی غلطی یہ ہے کہ مجددین کہتے ہیں کہ دینی احکام صرف قرآن میں مختصر ہیں باقی حدیث اجماع اور قیاس دینی اصول نہیں ہیں۔ اس بناء پر یہ لوگ جب بعض دفعہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور منع کئے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے؟ جیسا کہ داڑھی منڈانے والے کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو داڑھی منڈانے سے منع نہیں کیا؟ وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہر مسئلہ کے لئے قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں اگرچہ قرآن میں فاسد تاویل کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور جہاں خود ناکام ہو جاتے وہاں علماء دین سے مطالبة کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سے یہ مسئلہ بتلادیں۔

جواب:

جس طرح قرآن جلت ہے اسی طرح نصوص سے سنت اجماع اور قیاس کی جمیت بھی ثابت ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اگر صرف قرآن سے ہر ہر مسئلہ کو ثابت مانا جائے تو اس طرح دین مبہل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ بہت سارے احکام قرآن میں مذکور نہیں ہیں جیسا کہ نمازوں کی رکعت کی تعداد، زکوٰۃ کا نصیب اور مقدار واجب وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفاصیلات احادیث میں آئی ہیں اگر حدیث کو جلت نہ مانے اور صرف قرآن کو جلت مانا جائے تو نماز اور زکوٰۃ کی ادا گئی کیسے ہوگی۔

حصی مثال:

اس کی حصی مثال اس طرح ہے کہ نجح کے سامنے جب کوئی مدعا اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کرتا ہے تو منکر کو قانون کے مطابق اس پر اعتراض کا حق ہے لیکن وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اگرچہ یہ گواہ عادل ہیں لیکن فلاں صاحب عہدہ کو بطور گواہ لاو۔ کیا اس کا یہ مطالبہ مانا جائے گا نہیں اہر گز نہیں!۔ بلکہ گواہوں کو سچا مان لینے کے بعد ان کی گواہی مانی پڑے گی۔ اسی طرح جب حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہے تو اس پر قرآن کی آیت پیش کرنے کا اصرار کرنا قطعاً غلط ہے۔ اس لئے کہ مدعا کے حق میں مطلق دلیل کافی ہے۔ دلیل خاص مطالبہ کرنا اصول کے خلاف ہے۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ ان دلائل اربعہ میں بعض بعض سے قوی ہیں۔ بعض دلالت علی المعنی اور ثبوت میں قطعی ہے بعض دونوں لحاظ سے ظنی ہے۔ بعض دلالة قطعی اور ثبوت اتنی ہے اور بعض دلالة ظنی اور ثبوت اتنی قطعی ہے۔ جیسا کہ عدالتی قوانین قطعی ہوتے ہیں مگر قاضی اپنے اجتہاد اور ظن سے کسی قضیہ کو کسی قانون تحت داخل کرتا ہے تو اس سے قانون کی قطعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

دوسری غلطی:

دوسری غلطی یہ ہے کہ مجددین سائنسی ایجادات پر قرآنی آیات کو منطبق کرتے ہیں کہ فلاں چیز کا ذکر قرآن کی فلاں آیت میں اور فلاں چیز فلاں آیت میں ہے۔ اور اسی میں اسلام کا کمال بتلاتے ہیں۔

جواب:

یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم نہ تو سائنسی کتاب ہے نہ تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب ہے بلکہ قرآن کریم تو اصلاح نقوص اور اصلاح معاشرہ کے لئے نازل کیا گیا ہے۔

جس طرح ہر کتاب کا کمال بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے موضوع پر مشتمل ہو اور موضوع کے خالوں باتوں سے پاک ہو، موضوع سے بہت کراگر اس میں کوئی بات نہ ہو تو وہ اس کا نقش شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن کریم اپنے موضوع میں کامل ہے کہ بدایت کے اصول پر مشتمل ہے اگر اس میں سائنسی ایجادات کا ذکر نہیں ہے تو یہ اس کا نقش نہیں ہے بلکہ کمال ہے۔ البتہ جہاں اپنے موضوع کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑی وہاں قرآن کریم نے کائنات، زمین و آسمان، انس و جن (یعنی مادیات کا بھی ذکر کیا ہے مگر ان کا ذکر کرنا منسوخ نہیں ہے بلکہ توحید اور عقیدہ آخرت پر استدلال کے لئے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

اگر ہم نئی ایجادات کو قرآنی آیت کاملوں قرار دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہو گا کہ آج کی سائنسی تحقیق پر کچھ ہو گی تو کل اس کے خلاف تحقیق سامنے آئے گی اس طرح قرآن کریم اپنے مدلول پر قطعی نہیں رہے گا۔

دوسرانقصان یہ ہو گا کہ قرآن کریم نے اپنے مخاطبین کو ان کے ذہنی معیار کا الحاذر رکھ کر سمجھایا ہے اگر ہم ان ایجادات کو قرآنی آیات کاملوں قرار دیں گے تو یہ کہنا پڑے گا کہ گویا قرآن کریم نے عرب کو سائنسی ایجادات سن کر سمجھایا اور مخاطب کو سمجھانے کے تین طریقے ہیں: (1) یا تو ایسے مقدمات سے استدلال کیا جائے جو مخاطب کو بھی تسلیم ہو۔ (2) یادہ مقدمات بدیہی ہوں کہ خود بخود سمجھ میں آنے والے ہوں۔ (3) یا انہیں ایسی دلیل سے ثابت کیا جائے کہ مخاطب ماننے پر مجبور ہو جائے۔ حالانکہ عرب سائنس سے جاہل تھے۔ نہ تو یہ ایجادات انہیں تسلیم تھے اور نہ ان کے نزدیک بدبی اور ظاہر تھے اور نہ اس وقت انہیں سائنسی دلیل سمجھ آتی تھی اور یہ متكلم کی کمی شمار بھوتی ہے کہ مخاطب کو اپنی بات نہ سمجھ سکے۔ گویا سائنسی ایجادات کو قرآن کاملوں قرار دینا خود قرآن کریم پر تاقص ہونے کا الزام لگانے کے متراوٹ ہے۔

تیری خرابی یہ لازم آئے گی کہ سائنسی تحقیقات دن بدن بدلتی رہتی ہیں آج کوئی ایک تحقیق سامنے آئی تو کل اس کے برخلاف دوسری تحقیق سامنے آ جاتی ہے اگر ہم ان کو قرآن کامل لوں قرار دیں گے تو اس طرح قرآن کی آیت کا آج ایک مطلب ہو گا تو کل دوسرا۔ اس طرح کرتے کرتے قرآن کی ایک ایک آیت باطل ہوتی جائے گی اور قرآن کریم مبہل رہ جائے گا۔ عظیم ترین فساد ہے۔

نیز اس طرح قرآن کریم کا کوئی مدلول تسلی نہیں رہے گا بلکہ ہر ہر آیت میں اس کی تغییر کا احتمال ہو گا اور ملحوظ اس سے اپنی خواہش کے مطابق مطلب نکالیں گے جیسا کہ ایک شاطر عامل سے کسی عورت نے پوچھا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں؟ اس نے جواب میں ایسا اسلوب اختیار کیا جس میں دونوں باتوں کا احتمال تھا کہ بچہ نہیں بچی۔ اگر بچہ پیدا ہو گا تو کہیں گا میں نے کہا تھا کہ بچہ، نہیں بچی۔ اگر بچی پیدا ہو گی تو کہے گا کہ بچہ نہیں، بچی۔ اگر اس طرح کے احتمالات قرآن کریم میں بھی مانے جائیں تو پھر یہ کتاب ہدایت تونہ ہوئی۔

ایک اور خرابی یہ لازم آئے گی یہ کفار سائنسدان کہیں گے کہ ان سائنسی ایجادات کا نہ آپ کے نبی کو علم تھا اور نہ صاحب کرام کو یعنی وہ لوگ قرآن کے مطالب سے نعوذ باللہ ناواقف تھے یہ تو ہم نے کوشش اور تحقیق کر کے واضح کر دیئے ہیں۔ گویا سائنسی ایجادات کو قرآنی آیات کامل لوں قرار دینے سے نبی نہ لٹکنے اور صاحب کرام کی طرف جبل کی نسبت لازم آتی ہے۔ اس لئے کہ زمانہ نزول میں یہ ایجادات نہیں تھیں۔

انتباہ خامس

منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث نہ لفظاً محفوظ ہے اس لئے کہ عبد رسالت میں کتابت کا رواج نہیں تھا اور صاحب کرام زبانی ایک دوسرے کو روایت کرتے تھے اور یہ

ظاہر ہے کہ کسی بشر کو اتنی قدرت حاصل نہیں یہ کہ وہ بعینہ الفاظ کو نقل کرے اور کسی حرف اور لفظ کا اس سے ذہول نہ ہو۔

اور معنی کے لحاظ سے بھی حدیث کی حفاظت نہیں کی گئی ہے اس لئے کہ صحابہ کرام آپ ﷺ کی باتیں سنتے اور اپنی سمجھے کے مطابق اس کا مغبوم آگے روایت کرتے اسی طرح آگے لوگ بھی اپنی اپنی سمجھے اور فہم کے مطابق اس مغبوم کو الفاظ کے ڈھانچے میں ڈال کر نقل کرتے اور یہ بات عرض کی جا پکی ہے کہ الفاظ تو بعینہ محفوظ نہیں ہیں جب الفاظ اور معنی دونوں غیر محفوظ ہیں تو مراد رسول کیا تھا اس کا یقین ہم کیسے کریں؟ جب مراد رسول ہم تک نہیں پہنچ سکی تو حدیث کو کیسے جست مان سکتے ہیں؟

جواب:

در اصل ان لوگوں نے محمد شین اور فتحاء کے احوال کو بغور نہیں پڑھا اور ان کی قوت حافظہ کو اپنے کمزور حافظہ پر قیاس کر دیا۔ صحابہ کرام اور دیگر محمد شین کے قوت حافظہ کا کیا حال تھا تاریخ میں اس کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق مشہور ہے انہوں نے سوا شعار پر مشتمل تصحید و ایک ہی مرتبہ سنا تو سارا کا سارا نہیں یاد ہو گیا اور اسی وقت لفظ باخظ سنادیا۔ اسی طرح امام بخاری کے سامنے سوا حادیث کے متن اور سند کو خلط ملٹ کر کے سنا یا گیا تو انہوں نے اسی وقت مخلوط احادیث بھی سنادی اور پھر ہر ہر حدیث اس کی اصل سند ساتھ بھی سنادی۔ امام ترمذی آخری عمر میں نابینا بوجئے تھے سفر پر جا رہے تھے ایک جگہ سریچے کر کے گزرے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں ہے آپ نے کس چیز سے سر بچایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا لوگوں نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تحقیق کر کے معلوم کیا گیا تو بوزھے لوگوں نے کہا کہ یہاں بہت عرصہ پہلے یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا۔

اسی طرح محمد بنین نے تحقیق کر کے احادیث صحیح کو احادیث ضعیف سے الگ کر دیا ہے اس کے لئے انبوں نے راویوں کے احوال جمع کئے ان کوششوں کے باوجود بھی اگر حدیث کو جھٹ نہ مانا جائے تو تعصب ہو گا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی خدمت کے لئے صحابہ کے لئے غائبانہ انتظام بھی فرمادیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ کی احادیث یاد نہیں رہتی بھول جاتا ہوں آپ شلشیلہ نے ان کی چادر میں کچھ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگالو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا تو ان کا سینہ احادیث کے کھل گیا اور پھر کوئی حدیث نہیں بھولے۔

اشکال:

یہاں احادیث کی جیت کے متعلق کلام ہو رہا ہے اور آپ حدیث کی جیت کو ثابت کرنے کے لئے حدیث ہی پیش کر رہے ہیں یہ تو دور ہے؟

جواب:

ہم نے جو احادیث پیش کی ہیں وہ قصے ہیں جو تاریخ کی قبل سے ہے اور تاریخ قابل جلت ہے۔ گویا جیت حدیث کو تاریخ سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ لہذا در لازم نہیں آتا۔

اگر منکرین ان تاریخی واقعات کو خلاف فطرت سمجھتے ہیں خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والے واقعہ کے متعلق کہیں کہ ہماری کبھی سے باہر ہے کہ چادر میں ان کو کیسے ظلم ڈال کر دیا گیا؟

تو اس کا جواب عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ خلاف فطرت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نبی شلشیلہ کے ہاتھوں اس طرح کامجزہ صادر فرمادیا۔ جیسا کہ نظر بندی کرنے والے انسانی خیالات کو بدل دیتے ہیں مجہول اشیاء کو سامنے لے آتے ہیں اور معلوم اشیاء

کون نظر وہ سے غائب کر دیتے ہیں تو ان کے اس تعرف کو کوئی بھی خلاف فطرت نہیں سمجھتا بلکہ یہ ان کا کمال شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نبی ﷺ کا مجزہ ان کے تعرف کی طرح تو نہیں ہے مگر اس مثال کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں خلاف فطرت نہیں ہوا کرتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ نبی ﷺ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سر بز و شاداب رکھے جو میری بات کو سنے اور یاد کر لے اور اس کی حفاظت کرے اور پھر جیسا اس نے نہ اسی طرح آگے نقل کرے۔ اس دعا کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے صحابہ کرام کو رغبت تھی کہ حضور ﷺ کی بات بعنی انہی کی الفاظ میں آگے نقل کی جائے۔

اور حضور ﷺ کی باتوں میں تبدیلی سے ڈرتے تھے اس لئے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے سنا تھا کہ جس نے میری طرف ایسے بات کی جھوٹی نسبت کی جو میں نے نہ کی ہو تو وہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنادے۔ اور یہ خوف ان پر ایسا غالب تھا کہ بعض صحابہ تواریخ کی روایت ہی نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ بدلت کر اس وعدہ کا مسداق نہ بن جائیں۔ اسی وجہ سے جیساں ایک حدیث میں دو مختلف الفاظ متداول ہوتے ہیں تو احتیاط کے طور پر محمد میں ان کے درمیان ”خواہ“ یا ”اوغیر ذلک“ کے الفاظ ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ ﷺ کی طرف جھوٹی نسبت بھی لازم نہ آئے اور آپ ﷺ کا ارشاد بھی آگے روایت کیا جائے۔

ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں کتابت کی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ کتابت نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی کیون کہ پھر لوگ لکھنے پر اکتفا کرتے اور اپنی خداد اصلاحیت قوت حافظ کو کام نہ لاتے اور واضح بات ہے کہ صلاحیتوں کو جتنا کام میں لا جائے اتنا ان میں عمدگی آتی ہے اور کام نہ لانے سے وہ صلاحیتوں خالع ہو جاتی

بیس۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے زمانہ میں ان کو قوت حافظہ عنایت فرمایا انسوں نے اس کے ذریعے احادیث کی حفاظت کی اور بعد کے زمانے میں حافظے کمزور ہو گئے تو تدوین اور کتابت سے احادیث کی حفاظت کا ارتظام کر دیا گیا۔

زمانہ نبوت میں احادیث نہ لکھنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس وقت قرآن کریم جتنا جتنا نازل ہوتا اتنا لکھ لیا جاتا ہے تو حدیث کے لکھنے سے روکا گیا تاکہ قرآن اور حدیث آپس میں غلط ملط نہ ہو جائیں۔ جب قرآن کانزول اور کتابت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد احادیث کو بھی پورے احتیاط سے لکھ دیا گیا۔

نیز اگر احادیث کے متون اور اسناد میں غور کیا جائے ایک ایک حدیث کی کتنی سندیں ہیں یہاں تک کہ بعض احادیث درجہ تواتر تک پیش چکی ہیں یعنی ان کی اتنی سندیں اور زیادہ راوی ہیں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے احادیث متواترہ میں راوی کی حالت کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا اس لئے کہ دوسرے کثیر راوی بھی تو موجود ہوتے ہیں۔

بالفرض اگر مان لیا جائے کہ حدیث کے الفاظ ہعنیہ منقول نہیں ہیں تو اس کا تناقض ہے کہ الفاظ کی دلالت مرادر رسول ﷺ پر قطعی نہیں ہوگی بلکہ ظنی ہوگی اور ثبوت کے لحاظ سے بھی ظنی ہوگی اور پہلے عرض کیا جا چکا ہے دلیل نقلی اگرچہ ظنی کیوں نہ ہو وہ دلیل عقلی پر پھر بھی فوقیت رکھتی ہے۔

ہاں اس سے انکار نہیں ہے کہ بعض دفعہ حدیث کو اس کے الفاظ سے نقل نہیں کیا جاتا بلکہ روایت بالمعنى کیا جاتا ہے یعنی الفاظ نبی ﷺ والے نہیں ہوتے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ کرام ہر ہر حدیث کو اس طرح مغبوم نقل کرتے تھے۔ اگر کسی ایک صحابی نے اس کا مغبوم نقل کیا ہے تو دوسرے صحابہ نے اس کو الفاظ نبی ﷺ کے ساتھ بھی نقل

کیا ہے جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں بعض احادیث ملتی ہے بعض روایی الفاظ اور معنی دونوں نقل کرتے ہیں اور بعض روایی صرف معنی نقل کرتے ہیں اور الفاظ روایی کے اپنے ہوتے ہیں مگر دونوں کو ملانے سے معنی سمجھنا نہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس طرح تقویٰ اور خشیت کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ کبیس تبدیل شدہ الفاظ کی نسبت نبی ﷺ کی طرف نہ بوجائے۔

سوال:

جب الفاظ محفوظ نہیں ہیں تو معنی اور مراد رسول کیسے محفوظ رہا؟

جواب:

بالغرض اگر مان بھی لیا جائے کہ الفاظ رسول ﷺ بعینہ مرتول اور محفوظ نہیں ہیں پھر بھی معنی پر اعتماد کیا جائے گا اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کے مزاج مبارک کو جانتے تھے آپ ﷺ کے انداز گفتگو کو سمجھتے تھے۔ لہذا صحابہ کرام پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے جیسے مراد رسول ﷺ کو نقل کیا اسی کو ماننا پڑے گا اگر ان پر اعتماد نہیں تو الفاظ قرآن بھی توہیں صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچے ہیں پھر الفاظ قرآن پر اعتماد نہیں رہے گا۔

نیز اگر الفاظ یا معنی کے لحاظ سے حدیث میں شبہ بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ احادیث قطعی نہیں، ظنی ہیں۔ پھر بھی کوئی قیامت نہیں ہے اس لئے کہ ان سے احکام ظنیہ ثابت ہوں گے اور احکام ظنیہ بھی دین کا جزو ہے جن پر عمل واجب ہے۔

امداد مدد

اجماع کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا عزم داراد کرتا۔ اور اصطلاحی معنی ہے امت محمدیہ کے مجددین کا حکم شرعی پر اتفاق کر لینا۔

مگر یہ کہتے ہیں کہ اجماع ایک رائی ہے لہذا جحت نہیں ہے۔

جواب:

اجماع کا تعلق نقل سے ہے اور بہت ساری آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اجماع جحت ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے {وَمَن يشاقق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَّهُ مَاتُولِي وَنَصْلُهُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَسِيرًا} امام آلوی فرماتے ہیں کہ امام شافعی "نے اس آیت سے اجماع کی جحیت پر استدلال کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے "انَّ اللَّهَ لَا يجْمِعُ أَمْتَى أَوْ قَالَ أَمْةُ مُحَمَّدٍ شَرَّافُهُمْ عَلَى ضَلَالٍ" کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گراہی پر جمع نہیں فرماتے۔ لہذا جس مسئلہ پر امت کے علماء کا اتفاق ہوگا اسی میں بدایت ہوگی اور اسی پر عمل کرنا واجب ہوگا اس کے برخلاف چلنا گمراہی ہوگی۔

نیز جس طرح قانون کی کتاب کے تمام مسائل پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اسی طرح قرآن کریم اور احادیث بھی قانون ہے اور اجماع اس قانون کا ایک جزو اور شق ہے لہذا اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔

اجماع کی جحیت کی عقلي دليل:

عقل اور فطرت کا بھی بھی تقاضا ہے کہ اجماع جحت ہے اس لئے کہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی ایک شخص کے مقابلہ میں زیادہ لوگوں کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں اور شخصی رائے کو اس کے مقابلہ میں کا عدم قرار دیتے ہیں۔ اور بھی اجماع کی صورت ہے۔ لہذا دینی احکام میں بھی جس طرف علماء کی کثرت ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا اور اس کے مقابلہ میں شخصی تھیں کو ناقابل اعتبار سمجھا جائے گا۔

سوال:

اگر کسی بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے لیکن پھر اس کے خلاف بات پر اتفاق ہو جائے تو کیا اجماع جدید معتبر ہو گا؟

جواب:

کسی بھی معاملہ میں ہر شخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس معاملے کے ماہرین کی بات معتبر ہو اکرتی ہے۔ لہذا جن مسائل پر مشائخ اور ماہر مجتہدین کا اتفاق ہو چکا ہے اس کے خلاف ہمارے اتفاق کا اعتبار نہیں ہو گا اس لئے کہ وہ لوگ دین کے ماہرین اور علم کے پختہ، مخلص، متqi اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جبکہ ہمارا حال ہم جانتے ہیں کہ خواہش نفس پر چلتے ہیں، اخلاص اور علمی معیار بھی ان کی طرح نہیں ہے۔ پھر کیسے ان کے خلاف ہم ایسی جرأت کر سکتے ہیں۔

البتہ جن مسائل میں سلف صالحین سے کچھ بھی منقول نہیں ہے ان میں ہمارے زمانہ کے ماہر علماء کا اتفاق معتبر ہو گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ خواہشات اور اغراض فاسدہ والوں کی تائید نہیں فرماتے، خواہش پر چلنے والوں کو اتفاق کی توفیق نہیں ملتی، جس بات پر اللہ تعالیٰ نے علماء کو متشق فرمایا گویا اسی میں اللہ تعالیٰ نے بدایت رکھی ہے، لہذا علماء کے اتفاق کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا واجب ہو گا۔ یہ ساری تفصیل اس اجماع کی ہے جب نص صریح نہ ہو اور مجتہدین کسی اجتہادی مسئلہ پر اتفاق کر لیں تب ہمارے دور کے علماء کا اجماع معتبر ہو گا۔

اگر نص صریح سے ثابت مسئلہ پر مجتہدین کا اتفاق ہو تو اس کی مخالفت کرنے سے نص کی مخالفت لازم آئے گی ایسی صورت میں بالکل مخالفت کی مخالفت نہیں ہے۔

سوال:

ایک طرف نص پر اجماع ہے دوسری طرف اس کے برخلاف دوسری نص بھی موجود ہے تو کون سے نص پر عمل کیا جائے گا؟

جواب:

جس نص پر اجماع ہے اسی پر عمل کیا جائے گا کیوں کہ جس نص کی تائید میں اجماع بھی موجود ہے تو وہ دلیل قوی شمار ہوگی اور تعارض کی صورت میں دلیل قوی پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔

اور جہاں ایک طرف اجماع اور اس کے برخلاف نص ہو تو بھی اجماع پر عمل کیا جائے گا اس لئے کہ یہ بات مسلم ہے کہ اجماع نص ہی کی طرف منسوب ہے اگرچہ میں نص کا علم نہیں ہے۔ یعنی اجماع کا منعقد ہونا نص کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ اور جس نص کی تائید اجماع سے ہو وہی مقدم ہوتا ہے۔ گویا نص کو نص پر مقدم رکھا گیا۔

مثال:

جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ ﷺ نے بغیر خوف اور بارش کے بھی مدینہ میں ظبراً و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بااعد رسمی جمع بین الصالاتین جائز ہے مگر اجماع اس کی اجازت نہیں دیتا یہ فقیہاء کامل اجماع پر ہے نص حدیث پر نہیں ہے۔

دوسری مثال:

حدیث میں ہے تم سحری میں کھاؤ اور پوچھ نظر آنے والی روشنی تمہیں اس سے نہ رو کے، کھاؤ پہنچ جب تک افک پر سرخی نظر نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحیح صادق طلوع ہو جانے

کے بعد بھی سحری کھانا جائز ہے۔ مگر اجماع کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اجماع پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔

انتباہ سابع

قیاس کا الفوی معنی ہے ”اندازہ کرنا۔“ اصطلاح میں قیاس کی تعریف اس طرح ہے ”

تقدير الاصل بالفرع في الحكم والعلة“

قیاس کے متعلق بھی لوگ بہت سارے شبہات میں بتلا ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:
 سب سے پہلے قیاس کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے۔ یہ بات مسلم ہے کہ شریعت اسلام جامع قانون ہے معاش اور معاد (یعنی دنیا) اور آخرت کے تمام شعبوں میں آسمانی رہنمائی کا سامان دین و شریعت میں موجود ہے، لیکن کبھی کسی معاملہ کے متعلق کوئی حکم مخفی ہوتا ہے۔ تو منصوص احکام میں غور کر کے علت نکالی جاتی ہے پھر غیر منصوص کی طرف اس کو متعدد کیا جاتا ہے اور نص والا حکم غیر منصوص میں بھی لگادیا جاتا ہے۔ منصوص کو مقیس علیہ، غیر منصوص کو مقیس حکم جس امر پر موقوف ہوتا ہے اس کو علت، اثبات حکم کو تعداد یہ اور قیاس کیا جاتا ہے۔ یہی قیاس کی حقیقت ہے یعنی حقیقت میں حکم کو ثابت کرنے والا نص ہی ہے اور قیاس اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔

پہلی غلطی:

مگر لوگ قیاس کے اس مفہوم سے ناواقف ہونے کی بناء پر اس کا مفہوم کچھ اور سمجھتے ہیں اور اپنی رائے کو بھی قیاس کا نام دیتے ہیں یعنی احکام شریعت میں اپنی رائے اور خواہش کو چلا کر اس کو قیاس کو نام دیتے ہیں حالانکہ یہ شریعت میں دخل اندازی ہے جو عقل و نقل دونوں لحاظ سے ناجائز ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے {ولَا تَبِعْ الْهُوَى فِي ضَلَكْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} وغیرہ وغیرہ۔ اور عقلنا اس طرح ناجائز ہے کہ شرعی احکام میں دخل اندازی

کر کے خود کو صاحب شریعت سمجھنا ہے کہ جو ہماری خواہش ہے وہی شریعت ہے۔ حالانکہ شریعت کے احکام جاری کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

دوسری غلطی:

قیاس کی ضرورت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں نص موجود نہ ہو۔ تو حکم منصوص سے علت کا استخراج کر کے اس کی مدد سے غیر منصوص کی طرف نص کا حکم متعدد کر دیا جاتا ہے۔ جہاں نص موجود ہو وہاں نہ علت نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ حکم کو متعدد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دور جدید کے متجددین منصوص امور میں بھی عل泰山 ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں پھر جہاں علت کو پاتے ہیں تو حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں اور جہاں علت نہیں پاتے تو حکم کا انکار کر لیتے ہیں۔

تیسرا غلطی:

قیاس کا مقصد غیر منصوص کی طرف منصوص کے حکم کو متعدد کرنا ہے مگر متجددین اپنے قیاس فاسد کے ذریعے شرعی احکام میں تغیر اور تبدیلی کا ارتکاب کرتے ہیں جیسا کہ پہلے اسکی تفصیل عرض کر دی گئی کہ وضو کی علت صفائی قرار دیکروضو کو ضروری نہیں سمجھتے، نماز کو تہذیب اخلاق پر موقوف مان کر اس کی ضرورت نہیں سمجھتے وغیرہ وغیرہ۔

چوتھی غلطی:

متجددین اپنے آپ کو بھی اجتہاد کا اہل سمجھ کر علماء اور مشائخ کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں جس طرح وہ دین کو سمجھتے تھے ہم بھی دین کو سمجھتے ہیں اور قرآن کی آیت {لکم دینکم ولی دین} سے استدلال کر کے خود کو مجتہدین کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص اجتہاد کا اہل ہے بلکہ اجتہاد کی الیت کے مستغل شرائط

بیں، اجتہاد ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ قیاس و اجتہاد قانون کے فیصلوں کی طرح ہے کہ کسی مقدمہ کو قانون کلی کے تحت داخل کر کے اس پر قانون والا حکم جاری کر دیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ قانون کو اس طریقہ سے سمجھنے کی صلاحیت ہر کس وناکس نہیں رکھتا بلکہ اس کے لئے پہلے لکھنے پڑھنے اور پھر مشق اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے کیا ہر شخص کو نجح کی کرسی پر بٹھایا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

کیا اس زمانہ میں اجتہاد کا کو اہل ہے؟ یہ مسئلہ مقلدین اور غیر مقلدین میں زیر بحث ہے مگر ہمیں اس سے یہاں کوئی غرض نہیں ہے اس لئے اس پر کلام کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف قیاس اور اجتہاد کے متعلق شبہات کے متعلق ٹفتگو کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس زمانہ میں بھی مجتہد ہو سکتا ہے تب بھی ہمیں اپنے قیاس اور اجتہاد پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ ہمارے نفوس خواہشات میں بتلا ہیں، تقویٰ نام کا بھی نہیں ہے، اگر اجتہاد کی اجازت دی جائے کہیں دین سے گراہنہ ہو جائیں۔ اس کی حسی مثال یوں ہے جیسا کہ حکومت کے قوانین کی تفصیل بیان کرنے کا اختیار ہر ایک کو نہیں دیا جاتا یہاں تک کہ نئے نجح بننے والے کو بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی اگر اس کی اجازت دی جائے تو ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق قانون کا مفہوم بیان کرنے لگ جائے گا۔ اور اس طرح سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا کویا ہماری حیثیت مجتہدین کے مقابلہ اسکی ہے جیسا کہ عوام کی حیثیت قاضی اور نجح کے سامنے۔

خلاصہ:

ان چار انتباہوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مجتہدین قرآن کریم کو توجہ مانتے ہیں لیکن اس کی دلالت علی المعنی یعنی مفہوم اور مطلب میں غلطی کھا جاتے ہیں۔ سنت اور حدیث کو بھی مانتے ہیں مگر اس کے ثبوت کو نہیں مانتے کہ یہ صحیح طریقہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور اجماع کو جھٹ ہی

نہیں مانتے۔ اور قیاس کی جگہ وابستہ خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔

انتباہ شامن

ملائکہ، جنات اور ابلیس کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مگر مجہد دین ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ اس لئے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے سے گزر رہی ہو اور وہ میں نظر نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے جن آیات میں ان کا ذکر ہے ان میں ان لوگوں نے تاویل اور تحریف سے کام لیا ہے

-

جواب:

مگر ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کیوں کہ چیزوں کے علم کا ذریعہ صرف مشاہدہ نہیں ہے۔ عقلی استدلال اور خبر صادق سے بھی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے اور ملائکہ وغیرہ کے وجود پر اخبار صادقہ قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہیں۔ لہذا ان کا وجود ماننا واجب ہے۔

الزامی جواب:

اور اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ یہ لوگ خود توانہ کے وجود کو اس طرح بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بغیر صورت کے ایک عرصہ تک موجود تھا جس کو یہ لوگ "مادہ سدریہ" اور "اشتریہ" کا نام دیتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس کا مشاہدہ بھی نہیں کیا مگر پھر بھی اپنے ایک خالی مہم کی بنیاد پر اس کا وجود مانتے ہیں مگر ملائکہ کے وجود کے لئے مشاہدہ کو ضروری قرار دیتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے؟

نیزان جواہر یعنی ملائکہ وغیرہ کے عدم وجود پر کوئی عقلی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے تو گویا عقلاً ان کا وجود ممکن ہے اور ممکن کے متعلق قاعدہ ہے کہ دلیل تلقی سے فیصلہ کیا جاتا ہے اگر دلیل تلقی سے ثابت ہو گیا کہ ان کا وجود ہے تو تسلیم کرنا واجب ہے، اور ملائکہ، جنات اور ابلیس کے وجود پر بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں لہذا ان کا وجود تسلیم کرنا واجب ہے۔

انتباہات مسیحیہ

پہنچانی:

متجد دین قبر، امور آخرت یعنی جنت جہنم، بل صراط اور میزان وغیرہ کا انکار کرتے ہیں اس کی بنیاد بھی بھی ہے کہ ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو کیسے مان لیں؟

جواب:

اس کا جواب بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ صرف مشاہدہ علم کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ استدلال عقلی اور خبر صادق بھی ذرائع علم ہیں اور ان کے وجود پر اخبار صادقہ دال ہیں۔ لہذا ان کے وجود کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔

دوسری غلطی:

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی جد میں روح نہیں ہے اور بغیر روح کے وہ درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے؟ وہ قبر میں ملاجئ کے سوال کا زبان سے کیسے جواب دے سکتا ہے؟ اتنی بڑی جنت اور جہنم کہاں ہیں؟ قبر کے سانپ کہاں ہیں جبکہ ہمیں نظر نہیں آتے؟ اور بال کی طرح پتلے پل پر گز رہنا کیسے ممکن ہے؟ اور اعمال اعراض ہیں ان کا جسم نہیں ہے پھر کیسے میزان میں رکھے جائیں گے؟

اجمالی جواب:

ان تمام ثبوths کا اجمالی جواب یہ ہے کہ یہ تمام امور حال نہیں ہیں البتہ مستعد ضرور ہیں یعنی ممکن ہے مگر مشاہدہ میں نہ ہونے کی وجہ سے سمجھے سے بالاتر ہیں اور ممکن و مستعد کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ اس میں ولیل نقی کو دیکھا جاتا ہے اگر ولیل نقی اس کے وقوع پر دلالت کرے تو اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہوتا ہے اور ان تمام امور کے متعلق قرآن و حدیث کے نصوص موجود ہیں۔

تفصیلی جواب:

ممکن ہے کہ مردہ کے جسد کے ساتھ روح کا کسی قدر تعلق ہو جس سے ود در دوالم کو محسوس کرے لیکن حرکت نہ کرتا ہو اس لئے کہ اس عالم والوں کو اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ایک شخص کا آپریشن ہوا اور اس کو بے بھوٹ کر دیا گیا وہ حرکت تو نہیں کر رہا تھا مگر دل میں یعنی محسوس رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسد کو عذاب نہ ہوتا ہو صرف روح کو عذاب اور انعام دیا جا رہا ہو اور روح کو ایک الگ جسم ”جسم مثالی“ عطا ہو۔ اگرچہ کسی کا جسم آگ میں جل بھی جائے یا کوئی جانور کھا جائے تب بھی روح کو عذاب و انعام محسوس ہوتا ہے۔ جہاں تک عالم الارواح کا تعلق ہے تو وہ فضای میں واقع ہے۔ اور منکرنکیر کا سوال بھی وہ کانوں کے بغیر کے سن سکتا ہے اور بغیر زبان کے جواب دے سکتا ہے کیوں کہ کان اور زبان اگرچہ عادۃ سننے اور بولنے کے آلات ہیں مگر عقلناں کا ہونا شرط نہیں ہے یعنی عقلنا بغيران کے بھی کلام اور سماعت ممکن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم مثالی کے اپنے آلات ہوں سننے اور بولنے کے۔ اس لئے کہ عالم دنیا کے احکام الگ ہیں اور عالم ارواح اور برزخ کے احکام الگ ہیں۔

اور جنت و جہنم کی موجودگی بھی ممکن ہے اس لئے کہ سائنس دان کہتے ہیں کہ فضاء آسمانی اتنی زیادہ وسیع ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں اس وسیع فضای میں کہیں موجود ہوں۔

اور بیل صراط پر گز رہنا بھی اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مگر حال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے جیسا کہ قاعدہ ثانیہ میں اس کی تفصیل عرض کر دی گئی ہے۔

اور اعمال کو تو لئے کا مسئلہ بھی حال نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جن کاغذ کے پر چوں پر اعمال لکھے جاتے ہیں ان کا غذات کا وزن کیا جائے جیسا کہ احادیث میں اعمال لکھنے کا ذکر ہے

ہے مثلاً مشہور حدیث ہے "حدیث بطاقة" کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے گناہ پیاروں کے برابر ہوں گے مگر اس کے پاس ایک پرچمی میں کامہ تو حید لکھا ہو گا جب اس کو ترازوں میں رکھے گا تو وہ چھوٹی سی پرچمی ان تمام گناہوں کے مقابلے میں بھاری نکلے گی۔ اور جیسا کہ آج کل گری اور سردی کا اندازہ لگایا جاتا ہے حالانکہ ان کے اجسام نہیں ہیں مگر پھر بھی ان کے درجات معلوم کئے جاتے ہیں کہ آج اتنے درجے کی گرمی یا سردی ہے ایسے ہی اعمال کے بھی وزن ممکن ہے۔

اسی طرح قیامت کے دن اعضاء کی گواہی دینے کا مسئلہ بھی محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ دنیا میں ریڈ یوو غیرہ سے آواز نکلتی ہے تو آخرت میں باتح پاؤں کا بولنا کیسے محال ہو سکتا ہے۔

انتباہ عاشر

اسلام کائنات کی مادو چیزوں سے اصلًا بحث نہیں کرتا اس لئے کہ ان چیزوں کا تعلق شرعی احکام سے نہیں ہے۔ البتہ عقیدہ توحید یا عقیدہ آخرت کے اثبات کے لئے استدلال کے طور ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ قرآن و حدیث نے ان کا ذکر کیا ہے اس لئے ان کے وجود کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام کوئی سے بنایا گیا تو اس کا عقیدہ واجب ہے۔ اس کے برخلاف یہ کہنا کہ پہلا انسان بندر سے بنائے جیسا کہ ڈاروں کا عقیدہ ہے بالکل باطل عقیدہ ہے اس لئے کہ یہ عقیدہ نصوص قرآنی کے صراحتاً خلاف ہے۔ اور ڈاروں کے پاس اپنے نظریہ پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نکلی، بلکہ اس نے یہ نظریہ صرف تخيینہ کی بنیاد پر بنایا ہے چونکہ ڈاروں دہری تھا اللہ تعالیٰ کے وجود کوئی مانتا تھا اس لئے اس نے یہ نظریہ گڑھا۔ اور جو شخص چاہے جس دین سے بھی تعلق رکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو خالق دمائلک مانتا ہے اس کو ڈاروں کے نظریہ کی

کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ڈارون کا نظریہ صاف طور پر باطل ہے اس لئے کسی انسان نے آج تک نہ سنا اور نہ دیکھا ہے کہ کوئی جانور انسان بننا ہو۔ مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جو اللہ کو بھی خالق مانتے ہیں پھر بھی ڈارون کے نظریہ کو صحیح مانتے ہیں ایسے لوگ نہ مسلمان ہیں نہ ہی ڈارون کے اصلی مقلد بلکہ نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے۔

اسی طرح آسمانی گرج، بجلی کی کڑک اور بارش کا مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بادلوں پر ایک فرشتہ مقرر ہے اس کے ساتھ میں کوڑا ہوتا ہے جب وہ اپنے کوڑے کو بادلوں پر گراتا ہے تو اس سے چک اور گرج نکلتی ہے۔ مگر فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں سمندری پانی پر جب سورج کی تپش پڑتی ہے تو اس سے بخارات پیدا ہوتے ہیں وہ بخارات اور جا کر سردی کی وجہ سے جم جاتے ہیں پھر ہواں کے ساتھ اس کی نکر ہوتی ہے تو بادلوں کے نکرے بن جاتے ہیں پھر جب بادلوں کے نکرے آپس میں نکر کھاتے ہیں تو اس سے پانی برستا ہے اور چک اور گرج نکلتی ہے۔

جواب:

ہر چیز کے دو اسباب ہوتے ہیں ایک ظاہری، دوسرے مخفی اسباب۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ فلاسفہ جو تفصیل بتلاتے ہیں وہ بارش، چک اور گرج کے ظاہری اسباب ہیں جن سے ہمیں انکار نہیں ہے اور جو ہم بتلاتا ہے ہیں وہ مخفی اسباب ہیں دونوں میں تفاضل نہیں ہے۔ اس لئے کہ ظاہری اسباب ہمیں مشاہدہ سے معلوم ہوتے ہیں اور مشاہدہ کی بناء پر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ کلی نہیں ہوا کرتا بلکہ جزوی ہوتا ہے۔ اور جو حدیث میں آیا ہے وہ بھی کلی حکم نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی اور سبب بھی نہیں سکتا اور حدیث والی بات قضیہ مجملہ ہے یعنی اس میں کل یا جزو کی صراحة نہیں ہے اور مجملہ بھی جزویہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور منطق کا قاعدہ ہے کہ تعارض اور تضاد کے لئے دونوں طرف کلیات ہونے چاہئے۔ جزویات

میں تعارض اور تناقضیں ہوتا۔

اسی طرح حدیث میں طاعون کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ طاعون کی بیماری یا تو گناہوں کی وجہ سے یاجنات کے زخمی کر دینے سے لگتی ہے۔ لیکن سائنس دان اور ذاکر حضرات کہتے ہیں کہ طاعون جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی تناقضیں ہے گناہ اور جنات کا تعرف سبب ختمی ہے اور جراثیم اس کا سبب ظاہری ہے۔

اسی طرح مرض کے متعدد نہ ہونے کا مسئلہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ”لا عدوی ولا طیرة“ کہ بیماری کا متعدد نہ ہو سوت نہیں ہے۔ لیکن آج کل کی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص سے دوسرے کی طرف بیماری متعدد ہوتی ہے۔ لیکن ان دونوں باتوں میں بھی تعارض نہیں ہے اس لئے کہ حدیث کا یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ متعدد نہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ اور یہ کہ بیماری بالذات اللہ کے ارادہ کے بغیر موجود نہیں ہے۔ باہ کبھی متعدد بھی ہو سکتی ہے اور اللہ چاہے تو ایک ہی بیماری کنی لوگوں کی طرف متعدد ہو سکتی ہے۔

اسی طرح نصوص سے ثابت ہے کہ جس طرح سات آمان ہیں اسی طرح سات زمین بھی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے {اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مُثَلِّهِنَ} حدیث میں آتا ہے ”مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَرِّمَنَ الْأَرْضَ طُوقَهْ مَنْ سَبْعَ أَرْضَيْنَ“ جس نے ایک بالشت زمین ناجائز قبضہ کی اس کو ساتوں زمین سک طوق پہنایا جائے گا۔ مگر آج کی تحقیق یہ ہے کہ زمین ایک ہی ہے اس کے خالوہ کوئی زمین نظر نہیں آتی۔ لیکن اس تحقیق اور حدیث میں کوئی تناقضیں ہے اس لئے کہ مشاہدہ نہ ہونے سے زمین کا نہ ہونا لازم نہیں ہے۔

اعتراض:

روايات میں آتا ہے کہ ایک زمین دوسری زمین کے نیچے ہے مگر آج کے سائنس

دانوں نے زمین کے ارد گر کی سیر کی ہے مگر زمین کا ایک ہی کرو نظر آتا ہے اس کے نیچے دوسری زمین نظر نہیں آتی؟

جواب:

ممکن ہے اس وسیع فضائیں اس کرد کے نیچے ایک اور کرد ہو پھر اس کے نیچے تیرا اور چوتھا۔ اور ہم سے دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہو اور ہم اس کو ستارہ سمجھ رہے ہوں۔ اسی طرح یا جوج ماجوج کے وجود کا مسئلہ ہے قرآن و حدیث سے ان کا وجود ثابت ہے مگر آج کل کے متحد دین کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک یا جوج ماجوج کو دیکھا نہیں ہے تو کیسے ان کا وجود مانیں؟

جواب:

بوسکتا ہے کہ یا جوج ماجوج زمین کے کسی ایسے نکڑے میں آباد ہوں جہاں عام لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ہوں۔

اسی طرح آسمانوں کے وجود اور متعدد ہونے کا مسئلہ ہے کہ متحد دین آسمان کا وجود نہیں مانتے مگر ان کا یہ انکار صرف عدم مشاہدہ کی بیاناد پر ہے۔ اور پہلے بار بار عرض کیا جا چکا کہ عدم مشاہدہ کسی چیز کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ مشاہدہ کے علاوہ علم کے ذرائع اور بحثی جیں۔

اسی طرح نصوص سے ثابت ہے کہ سورج اور چاند وغیرہ متحرک ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں {و هو الذى خلق الیل والنہار والشمس والقمر کل فى فلك يسبعون} یعنی درحقیقت یہ چیزیں حرکت کرتی ہیں اگر چہ نظر نہ آتی یعنی روایت کے لحاظ سے ان کی طرف حرکت کی نسبت نہیں کی گئی ہے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے حرکت کی نسبت کی گئی ہے۔

اسی طرح سورج کے نظام کا بدلنا ہے کہ قریب قیامت میں سورج ایک دن مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اگرچہ ہمیں یہ نظام اسی طرح چلتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر اس کے بدلنے میں کوئی استحالت نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔

اسی طرح جسم بشری یعنی رسول کریم ﷺ کا آسمان سے اوپر جانے کا مسئلہ ہے۔ منکرِ ان مجازات کہتے ہیں کہ کرہ زمین کے حدود سے باہر ہوا اور آسمان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر ہوا کے زندہ رہا اور آسمانوں سے اوپر بھی چلا گیا؟

جواب:

یہ مسئلہ بھی عقلی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق نقش سے ہے اور اس کے ثبوت پر تکلی دلائل موجود ہیں۔ اور عقل ابھی ممکن ہے کہ تیزی کے ساتھ گزر کر زمین و آسمان کے درمیان ہوا سے خالی حصہ عبور کرایا گیا ہو جیسا کہ آگ کے اندر سے تیزی کے ساتھ ہاتھ گزارا جائے تو ہاتھ جلنے سے نجی ہوتا ہے۔ تو حضور ﷺ کے تیزی سے گزرنے میں کیا حرج اور استحالہ ہے۔

گیارہواں انتباہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے مطابق تمام مخلوقات کے لئے ازل سے جو کچھ اچھائی یا برائی مقرر فرمائی ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ لہذا اس پر ایمان لانا فرض ہے اس کے بغیر ایمان معبر نہیں ہے۔

مگر بعض لوگ تقدیر کو سرے سے مانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ تقدیر کو ماننے سے انسانی کوشش اور تدبیر مہمل رہ جاتی ہے۔

جواب:

ان کا یہ شبہ بالکل غلط ہے کہ تقدیر کے ماننے سے تدبیر باطل ہو جاتی ہے اس لئے کہ

جس طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے تقدیر کے ماننے کا حکم دیا ہے اسی طرح تدبیر اور رحمت کرنے اور دشمن سے خناکت کے انتظام کرنے وغیرہ کا بھی حکم فرمایا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ”خیر الكسب كسب العامل اذا نصح“ بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی ہے جب انسان امانت داری سے کام لے۔ اور تدبیر اور تقدیر میں کوئی تضاد نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کیا دعا اور دوام تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ دونوں بھی تقدیر ہی کا حصہ ہیں۔

بعض لوگوں نے صراحتاً تو انکار نہیں کیا ہے مگر اس کے معنی تبدیل کردیئے کہ تقدیر کا معنی ہے ”علم الہی“ اور علم معلوم میں تصرف نہیں کرتا ورنہ اس طرح تو انسان بے اختیار اور بجور محض رہ جائے گا۔ جیسا کہ نبوی کسی سے کہہ دیتا ہے کہ تو فلاں دن مرے گا اور وہ آدمی اسی دن مرجا تا ہے تو اس کی موت نبوی کے علم کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اسی طرح تقدیر کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف علم ہے کہ فلاں کو فلاں وقت میں اچھائی پہنچے گی اور فلاں آدمی کو برائی پہنچے گی۔

جواب:

نصوص سے ثابت ہے کہ جس طرح واقعات کا تعلق علم الہی سے ہے ایسے ارادہ الہی کا بھی ان میں دخل ہوتا ہے، کوئی کام بھی اللہ کے ارادہ کے بغیر نہیں ہو سکتا پھر تقدیر کو صرف علم الہی کا نام دینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ ان کی بیان کردہ تفصیل غلط ہے۔

اور ان حضرات کا یہ کہنا کہ تقدیر کو اگر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نظام مانیں گے تو انسان بجور محض ہو جائے گا یہ شبہ کرنا بھی غلط ہے اس کے دو جواب ہیں:

پہلا جواب الزامی:

جس طرح اللہ کے افعال کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ ہے تو کیا اس سے اللہ

سے اختیار کی نفع ہو جاتی ہے ہرگز نہیں۔ تو پھر انسان سے اختیار کی نفع کیسے لازم آتی ہے؟ یہ سمجھے سے باہر بات ہے۔ یعنی ارادہ اختیار کی منافی نہیں ہے۔

دوسرا جواب تحقیقی:

انسان اللہ کے دینے ہوئے اختیار کے ساتھ اپنے کام سرانجام دیتا ہے مگر اس اختیار کے ساتھ اللہ کا تعالیٰ کا ارادہ بھی جب شامل حال ہو جاتا ہے تب اس کا کام ہو جاتا ہے۔ گویا انسان کے فعل کا تعلق اولاً اپنے اختیار سے ہے اور پھر اللہ کے ارادہ کے ساتھ ہے۔ اس طرح دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں رہا۔

سوال:

بعض لوگ تقدیر کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں نیک اعمال نہیں کرتے، ہمت ہار جاتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تقدیر کونہ مانتے تو یہ لوگ مہمل نہ بنتے؟

جواب:

ان لوگوں کا مہمل بیٹھے رہنا ان کی سُتی کا نتیجہ ہے یہ تقدیر کا شرط نہیں ہے، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان تقدیر پر ہم سے زیادہ تھا مگر ہم سے زیادہ محنت کش تھے اللہ پر اعتماد اور توکل بھی ان کا زیادہ تھا اسی وجہ سے ان کی ہمت اتنی زیاد تھی کہ پر خطر جگہوں میں اپنی جان کی بازی لگادیتے تھے۔ اگر تقدیر سے کوئی مہمل بنتا تو وہ حضرات کیے ہمت والے بنے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی ﷺ نے ایک شخص کے خلاف فیصلہ فرمایا اس نے کہا حسی اللہ و نعم الوکیل تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عاجز اور مہمل بن جانے والے پر ملامت فرماتے ہیں تم اپنی کوشش ضرور کرو۔ ہاں جب معاملہ بالکل تمہاری طاقت سے نکل جائے پھر کہو حسی اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ میرے

لئے کافی ہے وہی میرے کام بنانے والا ہے۔

البتہ تقدیر مانے کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان تدبیر کو موثر بالذات نہیں مانتا بلکہ محنت کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنی محنت پر اختیار نہیں کرتا بلکہ اس کا اختیار حقیقت میں اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ گویا یہ شخص تدبیر کو اشارہ سمجھتا ہے جیسا کہ سرخ اشارہ جلنے سے گاڑی رک جاتی ہے اور بزرگ اشارے سے گاڑی چل پڑتی ہے دراصل گاڑی کو روکنے اور چلانے والا ذرا سیور ہوتا ہے، نہ کہ اشارہ۔ اسی طرح کام بنانے والا اللہ ہوتا ہے اور انسان کی تدبیر بمنزلہ اشارہ کے ہوتا ہے۔

سوال:

جب تقدیر کا عقیدہ نقلہ اور عقلاً درست اور ثابت ہے تو شریعت نے اس میں بحث کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک وفود آپ ﷺ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لائے تو آپ ﷺ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا گویا انہار کا پانی آپ کے چہرے پر ڈالا گیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں اسی بات کا حکم ملا ہے یا مجھے اسی بات کے لئے تمہاری طرف مبیوث کیا گیا؟ (کہ تم تقدیر میں بحث کرو) تم سے پہلی امتیوں نے جب تقدیر کی متعلق اختلاف کیا تو وہ ہلاک کر دیئے گئے۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اس کے متعلق اختلاف اور مباحثہ مت کرتا۔

جواب:

بعض شبہات عقلانہ پیدا ہوتے ہوں اور بعض شبہات طبیعت میں خود بخود آجائے ہیں جو شبہات عقلانہ پیدا ہو جاتے ہیں ان کے ازالہ کے لئے دلیل بیان کی جاتی ہے اور جو شبہات طبعاً پیدا ہوتے ہیں اس کے لئے دلیل بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور دلیل مشید بھی نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ صحابہ کی طبیعت صاف اور پاک تھی اس لئے آپ نے

بطور شفقت منع فرمایا کہ مزید شببات پیدا نہ ہوں جن سے دنیا و آخرت کا نقصان بوجائے۔ جیسا کہ ایک طبیب مرینش کو قتل غذاوں سے منع کرتا ہے تو اس منع کرنے کا مشاء شفقت ہوتی ہے کہ کبھی اس سے بیمار کو نقصان نہ پہنچ جائے۔

بارہواں انتباہ

بعض لوگ احکامِ اسلام کو مقصود نہیں سمجھتے بلکہ ان کو حکمتوں پر موقوف مانتے ہیں اور اپنی رائے سے ہر حکم کے علتیں اور حکمتیں نکالتے ہیں۔ جہاں انہیں حکمت نظر آتی ہے تو حکم کو بھی کارآمد سمجھتے ہیں اور جہاں حکمت نظر نہیں آتی وہاں حکم سے انکار کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ نماز کی حکمت "اخلاق اور نہش کی تربیت" بتلاتے ہیں پھر جہاں بغیر نماز کے تربیت ہو جاتی ہے تو نماز کو بے کار سمجھتے ہیں۔ وضو کی حکمت "صلوٰتی"، روزے کی حکمت "بسمانہ خصلتوں سے خلاصی"، زکوٰۃ کی حکمت "ترقی" کے کاموں میں تعاون، "حج کی حکمت" "اجماعیت"، تجارت کی غرض "ترقی"، علم و تعلیم کی حکمت "معانی کا علم"، دعا کی حکمت "نفس کی تسلی"، قربانی کی حکمت "محاجوں کی مدد"، جہاد کی حکمت "قیام امن اور آزادی" کو قرار دیتے ہیں اسی وجہ سے اگر یہ اغراض کسی اور طریقے سے حاصل ہو جاتے ہیں تو ان احکام کو بے کار سمجھتے ہیں جیسا کہ قربانی کے متعلق ان کا یہ شہر مشہور ہے کہ اس سے مقصود غریبوں کی مدد ہے عرب میں لوگ گوشت کے محتاج تھے تو قربانی کا حکم دیا گیا مگر آج کل لوگ پیسوں کے محتاج ہیں اس لئے قربانی کی جگہ لوگوں کو پیسے دینے چاہئے یعنی ان لوگوں کا مقصد احکامِ اسلام میں تحریف اور تبدیلی ہے۔

جواب:

ان لوگوں سے یہ بھی پوچھنا چاہئے کہ کب تک اور کہاں تک یہ حکمتیں بیان کرو گے؟ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ نماز میں رکعتوں کی جو تعداد مقرر ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ ہر گز نہیں

بات سکتے۔ اگر انہی عقل کافی ہوتی تو اب عقل کی موجودگی کے باوجود اللہ تعالیٰ رسولوں کو مسیح نہ فرماتے۔ دراصل ان لوگوں کی نظر میں صرف دنیا ہے یہ مصلحتیں دنیا میں تو کام آسکتی ہیں مگر آخرت میں کام نہیں دے گی۔ اس لئے آخرت کے خواص الگ ہیں وہاں کچھ اور چیزیں کام آئیں گی صرف سنائی، ترتی، آزادی اور اجتماعیت تو کام نہیں آئے گی۔

کیا دنیاوی قوانین کے لئے کوئی حکمتیں اور مصلحتیں نکال کر ان قوانین سے انکار کر سکتا ہے یا انہیں اپنی مرضی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا حکومت اس کو چھوڑ دے گا۔ پھر یہ معاملہ قانون الہی کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگرچہ صاحب کسی کے لئے حکم جاری کر دے کر گواہی دینے کے لئے عدالت کے کمرے میں حاضر ہو جاؤ مگر یہ گواہ کہتا ہے کہ گواہی دینے کا طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنا بیان کا غذ پر بلکہ کریمی دوں اور خود حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا چہ صاحب کے حکم کے خلاف کر کے اس کی اس رائے پر عمل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ جیسے نجح صاحب کہتے ہیں اسی طرح کرنا ضرور ہوتا ہے۔

لیکن ہمارے اس بیان سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہئے کہ شریعت کے احکام میں کوئی حکم نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر ہر حکم میں بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں جیسا کہ علماء کرام نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں لیکن یہ ان کا تبرع و احسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکمتیں ظنی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ان پر اطلاع نہیں پائی جاتی مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ حکم کو بدل دیا جائے یا اس سے انکار کر دیا جائے۔ جیسا کہ گھر کا ایک خادم گھر کے بہت سارے کاموں کی مصلحت کو نہیں جانتا مگر ماں کے حکم کے مطابق سارے کام سرانجام دینے پڑتے ہیں حالانکہ اس کا مالک اس کا خالق نہیں ہے۔ پھر مخلوق کو کیسے حق حاصل ہے کہ اگر وہ خالق کے حکم کے اسرار اور حکموں سے واقف نہ ہو تو خالق کے حکم سے انکار کر دے یا اسکی جگہ اپنی

مرضی سے کوئی کام کر بیٹھے۔

بلکہ ایک عاقل شخص نے کہا کہ تمام احکام کی تمام حکمتوں سے اگر مخلوق واقف ہو جائیں تو مخالفین اسلام کے متعلق شک میں جتنا ہو جائیں گے اور اسلام کے متعلق شبہ کرنے لگ جائیں گے کہ اس دین کو کسی عاقل نے اپنی طرف سے بنایا ہے یہ دین آسمانی نہیں ہے۔ دین ربانی ہونے کا تقاضا بھی ہے کہ انسانی عقل اسکے اسرار سے عاجز ہو۔

تیرہواں انتباہ

متعدد دین معاملات اور سیاست کو دین کا جزو نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس کو قبیل مصلحت اور اپنی رائے پر موقوف مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مملکت کے معاملات اہل معاملہ ہیں چاہیں اس میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ سود کو جائز سمجھتے ہیں اور علماء کو تنقید کو نشانہ بناتے ہیں اور انہیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔

جواب:

سب سے پہلے یہ تحقیق کرنی چاہئے کہ دین کا معیار کیا ہے تاکہ اس معیار کے مطابق فیصلہ ہو کہ کون سی بات دین کا جزو ہے اور کون سی بات دین میں سے نہیں ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور سزا و عتاب سے بھی ڈرایا ہے یعنی جن چیزوں کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے پر سزا ملے وہی دین کے اجزاء، ہیں۔ قرآن و سنت کی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات اور سیاسی امور کے متعلق بھی وعدہ اور وعدہ موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی دین کے اجزاء ہیں دین سے کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں۔

سوال:

یہاں ایک سوال کیا جاسکتا ہے کہ مجتهدین جو اپنے اجتہاد سے مسائل کا استنباط کرتے

بیں کیا وہ سائل دین کا جزء ہیں یا نہیں؟

جواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں قیاس و اجتہاد کے ذریعے جو سائل متنبٹ کئے جاتے ہیں وہ بھی دین کا جزء ہیں اس لئے کہ سائل اجتہاد یہ نصوص میں چھپے ہوئے سائل کا نام ہے قیاس اور اجتہاد کے ذریعے ان سائل کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔

شبہ:

بعض لوگ اس شبہ کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ بعض دفعہ معاملات اور سیاست کے "شرعی احکام" شہری اور حکومتی انتظام کے مخالف ہوتے ہیں اگر یہ اللہ کے جاری کردہ احکام ہوتے تو ایسا نہ ہو تا لہذا معاملات اور سیاست کے متعلق جو احکام جاری ہوئے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے لئے تھے ہر زمانے کے لئے نہیں ہیں۔

جواب:

اس کا جواب پہلے عرض کیا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور حکیم ذات ہے اس کے جاری کردہ قوانین تا قیامت یکساں مفید ہیں اور جو بعض دفعہ تنگی محسوس ہوتی ہے وہ لوگوں کی دلی تنگی ہوتی ہے یا اجتماعی حیثیت سے مفید ہوتے ہیں اگرچہ شخصی حوالے سے کسی فرد کو وقتی نقصان ہو۔ مگر شخصی نقصان کی خاطر اجتماعی فائدہ کو کھونا درست نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کو موبہوم مصالح پر منطبق کرنے اور ان میں تبدیلی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس طرح تو ایک ایک حکم شریعت کی فبرست سے نکلتا جائے گا اور خود ساختہ حکم کو جگہ ملتی جائے گی تو دین باقی نہیں رہے گا۔

چودہواں انباء

متجد دین اجتماعی معاملات اور خاص عادات کو بھی دین کا جزء نہیں سمجھتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ چیزیں تو سرف زیب و زینت اور شخصی پسند کا نام ہے لہذا ہر شخص اپنے اختیار سے جس طرح چاہے ان میں آزادی سے تعریف کر سکتا ہے۔

جواب:

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جن امور کے کرنے پر شریعت نے ثواب یا سزا کا وعدہ یا وعدہ بیان کی ہے وہ چیزیں شریعت کا جزء ہو اکرتی ہیں، اجتماعی امور اور شخصی امور کے متعلق بھی شریعت نے احکام دیئے ہیں ان کے موافق عمل کرنے پر ثواب کا وعدہ ہے اور ان کی مخالفت پر عذاب کی وعدہ سنائی گئی ہے لہذا ہر انسان ان امور میں بھی شریعت کا پابند ہے۔

البتہ جن امور کے متعلق شریعت نے نہ جزوی اور نہ کلی حکم دیا ہو، ایسے امور میں انسان آزاد ہوتا ہے مگر جہاں شریعت کا جزوی یا کلی حکم موجود ہو وہاں اپنی مرضی نہیں چلتی۔

جزوی منصوص امور میں یہ چیزیں داخل ہیں: مردوں کے لئے ریشم کا استعمال، بخنوں سے نیچے پالکے لٹکانا، داڑھی مونڈھنا یا ایک مٹھی سے کم کر دینا، ذی روح چیزوں کی تصویریں بنوانا یا رکھنا، بلا ضرورت کتا پالنا، غیر شرعی طریقے سے ذبح شدہ جانور کھانا، شراب کا کسی بھی طریقہ سے استعمال کرنا چاہے بطور دواہ یا غذابدن کے لئے استعمال کی جائے یا کسی اور مقصد کے لئے یہ سب حرام اور ناجائز امور ہیں۔

اور کلی منصوص امور یہ ہیں: کفار کے ساتھ مشابہت چاہے لباس میں ہو یا کھانے پینے کے طور طریقوں میں، بغیر رضامندی کے یاد حوكہ سے کسی سے بدیہی اور تحفہ لینا، تکبر اور فخر کے طور پر لباس یا سواری کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام امور ایسے ہیں کہ ان میں کسی کی اپنی مرضی اور اختیار نہیں چلتا۔ مگر آزاد خیالوں اور روشن خیالوں نے ان امور کے متعلق ایک خاص مزاج اپنارکھا ہے کبھی تو ان امور کے متعلق قرآن کی صریح آیت کا مطالبہ کرتے

ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، کبھی ان امور کے لئے خود ساختہ حکمتیں نکالتے ہیں، اور کبھی ان کی پوشیدہ حکتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو کبھی ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔

ان تمام شبہات کے جوابات تو عرض کئے جا پکے ہیں مگر ایک جامع جواب یہاں بھی عرض کیا جا رہا ہے کہ قوانین اور ضوابط میں کسی کی رائے نہیں چلتی اور نہ ان کے اسرار اور حکمتیں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ ہاں! اگر کبھی کسی امر کی کوئی حکمت ذکر کی جاتی ہے تو وہ سمجھانے کے طور پر اور تبرع اور احسان کے طور پر بیان کر دی جاتی ہے۔ حکمت کا بیان کرنا کسی کے مطالبہ کا جواب نہیں ہوا کرتا۔ مگر لوگ حکتوں، مصالح اور اسرار کو اصل سمجھتے ہیں یہ ان کی فطرت کی خرابی کی علامت ہے۔

یہ بھی سوچنا چاہئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر کسی مجلس میں جائے تو کیا لوگ اسے اچھا سمجھیں گے یا یہ اس شخص کی بے وقوفی شمار ہو گی؟ ظاہر ہے یہ اس کی بے وقوفی ہو گی۔ تو پھر کفار کی مشابہت کو کیوں اچھا سمجھا جاتا ہے؟ کیا حکومتی ادارے اپنے کارکنوں کے لئے جو خاص لباس مقرر کرتے ہیں کیا اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں! جب دنیا کے حاکم کو لباس اور شخصی امور میں دخل اندمازی کا اختیار ہے اور اس کی مخالفت نہیں کی جاتی تو خالق کائنات کو کیونکر اختیار نہیں ہو گا کہ اپنے بندوں کے لئے مخصوص لباس اور رہن سہن کے طور طریقے جاری فرمائیں کا پابند بنایا جائے۔

پندرہوال انتباہ

باطنی اخلاق اور نس کے احوال میں بھی لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ یہ دین کا جزء نہیں ہے، حالانکہ نصوص میں اخلاق باطن کے متعلق بھی تعلیمات موجود ہیں پھر ان کے جزء دین ہونے سے کیے انکار ممکن ہے۔

دوسری خطاطی کا ارتکاب جو عام طور سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اچھے اور بے

اخلاق کو خلط ملط کر دیا ہے۔ برائیوں کو اچھائیوں کا لباس پہنا کر پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ مال اور رجاء کے لائق کو ترقی کا نام دیا گیا، سُکبڑا اور غرور کو شرافت اور عزت کا، قومی تعصّب کو عوامی تعاون کا، دھوکے کو حکمت و سیاست کا، منافقت کو زمانہ کے مطابق چلنے کا نام دیا گیا۔

اسی طرح بعض اچھائیوں کو برائی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ قناعت اور کفایت شعراً کو کم ہستی سمجھا جاتا ہے، توکل کو تعطل، دینداری اور دینی حیثیت وغیرہ کو تعصّب اور تشدد، فقیری کو ذلت، تواضع کو کتری، تقویٰ کو وہم اور وسوسرہ، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کو وحشت سمجھا جاتا ہے۔

اسی طرح بعض برائیوں کو اچھائی کا نام دیئے بغیر بھی سرانجام دیا جاتا ہے جیسا کہ بدگمانی، ظلم، مساکین کے حقوق سے بے پرواہی اور ان کے ساتھ تھنی کا سلوک روک رکھنا، لوگوں کی تحریر، بے ادبی، علماء کی غیبت اور ان کے برائیوں کی چھان بین کرنا، ریا کاری، تفاخر، اسراف و تبذیر، آخرت سے لا پرواہی وغیرہ مذموم صفات اپنائے جا رہے ہیں مگر ان کی اصلاح کی نظر نہیں کی جاتی۔

سلہواں انتباہ

ہمارے زمانے میں استدلال کا رواج ہے مگر اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں مثلاً: دلیل عقلی کو مطلقاً دلیل نقلي پر ترجیح دیتے ہیں، اندازوں اور تخمینوں کو دلیل عقلی سمجھتے ہیں، عقل سے شریعت کے احکام کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نظری کو دلیل سمجھتے ہیں اسی وجہ سے دلیل کے ہوتے ہوئے بھی نظری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ممکن امور میں بھی دلیل عقلی کا مطالبہ کرتے ہیں، حال اور مستبعد کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، خلاف عادت اور خلاف عقل میں فرق نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔



مَعَافُ النَّجْوِ

ایک ایکی کتاب تھیں جس پر ایڈو. ہائی۔ شن ملابی بھی اور
شیخ انقل کے تراجم میں سائل کاں موجود ہے

قَدِيمٌ
مُفْتَنٌ عَبْدُ اللَّهِ
جَانِيَةُ زَيْنٍ

فَكِتْبَةُ السَّعْدِ
کاظم - بن نعیم - مکتب



فَكِتْبَةُ السَّعْدِ
0345-92045111 - 0345-9218250
021-32620050 - 0345-9213250
021-32711800 - 0345-9213250
0341-8001393 - 0345-9213250
0345-8374418 - 0345-9213250